SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Wednesday, January 2, 1991

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad at 3.10 of the clock in the evening, with Mr. Chairman (Mr. Wasim Sajjad) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ؕ

(۱۰۴) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَاٰخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

ترجمہ:- اور ان سے کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ۔ خدا اور اس کا رسول اور مومن (سب)
تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔ اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے (خدائے واحد) کی طرف
لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ ﴿۱۰۵﴾ اور کچھ اور لوگ ہیں
جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے چاہے اُن کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے
اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے ﴿۱۰۶﴾ سورہ التوبۃ

SENATE OF PAKISTAN

SENATE DEBATES

Wednesday, January 2, 1991

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad at 3.10 of the clock in the evening, with Mr. Chairman (Mr. Wasim Sajjad) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ؕ

﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا
يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

ترجمہ:- اور ان سے کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ۔ خدا اور اس کا رسول اور مومن (سب)
تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔ اور تم غائب وحاضر کے جاننے والے (خدائے واحد) کی طرف
لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ ﴿١٠٥﴾ اور کچھ اور لوگ ہیں
جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے چاہے اُن کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے
اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے ﴿١٠٦﴾ سورہ التوبہ

POINT OF ORDER RE: INTERVAL FOR PRAYERS.

قاضی حسین احمد: پوائنٹ آف آرڈر،

جناب چیئرمین: جی، قاضی صاحب،

قاضی حسین احمد: جناب چیئرمین! میری استدعا یہ ہے کہ اجلاس کا وقت مقرر کرتے وقت نماز کے اوقات کا لحاظ رکھ لیا کریں۔ آپ کی پارلیمنٹ کی مسجد میں پونے چار بجے عصر کی نماز ہوتی ہے اور آپ نے سوا تین بجے اجلاس بلایا ہے، اب ۱۰ منٹ بعد عصر کی نماز ہونے والی ہے......

جناب چیئرمین: اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی ملتوی کر دیتا ہوں اور عصر کی نماز کے بعد یعنی ۵ منٹ کم چار بجے پھر دوبارہ ملیں گے۔ پہلے یہ بتایا نہیں گیا تھا ورنہ عام طور پر اجلاس ساڑھے تین بجے رکھتے ہیں، میں نے اجلاس کو پندرہ منٹ پہلے رکھا تھا لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ پونے چار بجے نماز ہوتی ہے۔۔

قاضی حسین احمد: جناب چیئرمین، میری یہی استدعا ہے کہ اگر آپ پوچھ لیا کریں کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں تو یہ سب کے لئے بہتر ہوگا۔

جناب چیئرمین: جی، وہ مجھے پتہ ہے، لیکن جس وقت اس اجلاس کا وقت مقرر کیا تھا، آپ بھی اس وقت موجود تھے، آپ نے اس وقت ذکر نہیں کیا تھا۔

قاضی حسین احمد: میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مناسب موقع تھا۔

جناب چیئرمین: تو آپ بھی کسی وقت بھول جاتے ہیں۔

LEAVE OF ABSENCE:

جناب چیئرمین: اب رخصت کی درخواستیں لیتے ہیں۔ جناب صوبیدار مندوخیل، ناسازئ طبع کے باعث ۲۲ دسمبر تا ۲۹ دسمبر ایوان میں شرکت نہیں کر سکے، اس لئے انہوں نے ان دنوں کے لئے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب محمد علی خان صاحب، اپنے ایک قریبی عزیز کے انتقال کی وجہ

سے ۳ جنوری تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ان دنوں کیلئے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا آپ ان کی رخصت منظور فرماتے ہیں۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: سید عباس شاہ صاحب، اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر ۲ تا ۷ جنوری ۱۹۹۱ء ایوان میں شرکت نہیں کر سکیں گے، اس لئے انہوں نے ان دنوں کے لیئے رخصت کی درخواست کی ہے کیا ایوان کو ان کی رخصت منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب احمد میاں سومرو صاحب، ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ ۱۲ اور ۷ جنوری کو ایوان میں شرکت نہیں کر سکیں گے، اس لئے انہوں نے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا ایوان کو ان کی درخواست منظور ہے۔

(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: اب میں آپ کی اجازت سے اس ایوان کو پندرہ منٹ کے لئے ملتوی کرتا ہوں۔ اب اجلاس کو تین بج کر ۵ ۵ منٹ تک کے لئے ملتوی کیا جاتا ہے۔

[The House adjourned for prayers].

[The House re-assembled after interval with, Mr. Chairman (Mr. Wasim Sajjad) in the Chair].

Mr. Chairman: Prof Khurshid Ahmed Sahib

PRIVILEGE MOTION RE: ISSUANCE OF NEW AIRPORT PASSES TO MEMBERS OF PARLIAMENT.

Prof. Khurshid Ahmed: I beg to seek the leave of the House to move the following privilege motion:

I have received today the new airport pass. I am constrained to note that formally our VIP airport pass used to be valid for VIP lounge, apron etc. This was essential because on a number of occasions we have to go to the apron to receive dignitaries and other persons. In the new,

VIP airport pass apron has been explicitly excluded. It is mentioned that "this pass not entitle you to go at the apron to receive/see off anyone". This curtailment of a facility that has been enjoyed by the members of the Parliament has not been explained anywhere. We do not know why this arbitrary change has been made. In view of the fact that a right is created either by the law or by the custom, usage, this curtailment of the right of members of the Parliament to have access to apron constitutes a violation of their privilege and I be to move that this issue be taken up by the Privileges Committee for appropriate action.

Mr. Chairman: Is it being opposed?

Ch. Nisar Ali Khan: I oppose it, Sir. If I am allowed to make a statement I will clear up the matter, Sir.

Mr. Chairman: If you wish so, please go ahead.

Ch. Nisar Ali Khan: Thank you, Sir. Sir, it is true what the honourable Senator has said. We have checked up the record and unfortunately this has happened but I assure the Senator and indeed the House that this has been due to an oversight. In the light of the privilege motion the Ministry of Defence has decided that the privilege of the members of the Parliament is a matter of right and we are again asking that this be put back on the passes. We are going to ask the members to give back their passes and then we are going to have it issued on their old passes.

Prof. Khurshid Ahmed: I thank the Minister for this prompt action. If they really are going to proceed with this speed I do not press it.

Mr. Chairman: Brig. Qayyum Sahib.

Brig. (Retd) Abdul Qayyum: Sir, previously these passes were valid for other lounges also but the new passes

have been invalid for other lounges. It is only valid for VIP lounge now.

Ch. Nisar Ali Khan: They will be valid for all lounges.

Mr. Chairman: Mr. Javed Jabbar.

Mr. Javed Jabbar: Mr. Chairman, while I appreciate the initiative taken by Senator Khurshid on this matter surely is not substantive enough warranted to be raised on the floor of the House because many other privilege motions which at least in my humble opinion are of substantive nature are slaughtered in the chamber. So, would it not be fair to allow the opposition to raise other issues dealing with more substantive matters on the floor of the House and then you can accordingly do away with them.

Mr. Chairman: I don't have to inform you Mr. Senator, you now had sufficient experience of the functioning of this House that the rulings of the Chairman whether given in the chamber or in the House are not questioned by the members. This is against parliamentary practice. If you have any objection to any action that I have taken you are quite welcome to see me in my chamber so we can discuss these matters. Thank you very much. Basheer Ahmad Matta Sahib.

Mr. Basheer Ahmad Matta: Sir, I wish to inform you with regret that many of the motions, questions and other items which are given into the hands of the Secretariat are trifled with by them. They meddle with the questions and resolutions drastically without consulting the members of the Senate. Sir, On two or three occasions previously also the questions which I wanted to put were changed without consulting me. Sometimes the questions are returned to us without sufficient reasons. I think the better practice would be that if any change is desired to be made, at least the

member of the Senate should be consulted, because they would like to ask a question which they formulate but not the one which is formulated for them. In the latter case it is better not to ask it at all. So, I would request you kindly to direct your Secretariat to at least consult the member concerned before meddling with their questions and resolutions etc.

Mr. Chairman: So, again I would like to tell you that such matters which concern the Secretariat or the functioning of the House should be discussed with me in my Chamber. They are not to be brought on the floor of the House.

Mr. Basheer Ahmed Matta: In any case you could keep it in mind.

Mr. Chairman: No, you come to my Chamber, I would like to discuss this matter with you. This is an important matter, I would like to discuss it. Now we proceed with the discussion on the President's a Address to Parliament. Hafiz Hussain Ahmed on a point of order.

حافظ حسین احمد: جناب میری ایک تحریک استحقاق ہے، محترم جام صادق کی جام نوشی کے متعلق۔ اس پارلیمنٹ میں انہوں نے اس کا جو اعتراف کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔

جناب چیئرمین: وہ آپ باقاعدہ لکھ کر لائیں پھر دیکھیں گے۔

حافظ حسین احمد: میں نے باقاعدہ لکھ کر دی ہے جی۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے اگر دی ہے تو پہلے ہم اسکو examine کریں گے پھر لائیں گے

MOTION UNDER RULE 171(1) CONDONATION OF DELAY.

Prof. Khurshid Ahmed: I beg to move under sub-rule

(1) of Rule 171 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 1988, that delay in the presentation of report of the Special Committee to examine in-depth the reports of the Council of Islamic Ideology laid on the table of the Senate from December, 1985 on the subjects "عقائد و عبادات اور ذرائع ابلاغ", be condoned till today.

Mr. Chairman: It has been moved by Prof. Khurshid Ahmad that under sub-rule (1) of Rule 171 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 1988, that delay in the presentation of reports of the Special Committee to examine in-depath the reports of the Council of Islamic Ideology laid on the table of the Senate from December, 1985 on the subjects "عقائد و عبادات اور ذرائع ابلاغ", be condoned till today?

(The motion was adopted)

Mr. Chairman: The delay stands condoned. Prof. Khurshid Sahib.

Report – Re: examination of reports of C.1.1. — laid.

Prof. Khurshid Ahmed: Mr. Chairman, I have the honour to present report of the Special Committee to examine in-depth the Reports of the Council of Islamic Ideology laid on the table of the Senate from December, 1985 on the subjects"

"عقائد و عبادات اور ذرائع ابلاغ"

Mr. Chairman: The report stands laid

پروفیسر خورشید احمد: جناب چیئرمین! آپ کی اجازت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمد للہ ہماری کمیٹی نے شب و روز کام کر کے چار رپورٹیں ایوان کے سامنے پیش کر دی ہیں اور اس طرح تین چوتھائی کام ہم نے مکمل کر لیا ہے اب آپ براہ مہربانی ان رپورٹوں پر جلد از جلد ڈسکشن کے لئے وقت مقرر کریں تاکہ ہم سینٹ کی دوبارہ تشکیل سے پہلے پہلے جو اتنا کام ہوا ہے اس پر یہ ایوان غور بھی کرے اور جس طرح کمیٹی

نے تجویز کیا ہے کچھ معاملات پر قرار دادیں اور کچھ معاملات پر قوانین یہ دونوں کام ہو سکیں

Mr. Chairman: We will look into that. Mr. Shad Muhammad Khan. Further discussion on the President's Address.

جناب شاد محمد خان۔ شکریہ! جناب چیئرمین، اس سے پہلے نہایت ہی فصیح و بلیغ پیرائے میں مقررین نے صدر کی تقریر پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے مجھے ان سے مکمل اتفاق ہے۔

حضور والا! صدر صاحب نے نہایت بصیرت افروز جامع اور پر مغز خطاب میں سال کے شروع میں سابقہ حکومت کو آگاہ کیا تھا اور بڑے احسن طریقے اور پیرائے سے سابقہ حکومت کی کوتاہی کی نشاندہی کی تھی مگر سابقہ حکومت نے ان نصیحت آموز باتوں کو درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے اور اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات کیئے کہ بالآخر صدر مملکت کو آئین کی بار بار خلاف ورزی، رشوت اور اقربا پروری میں اضافے اور امن عامہ کو تباہ کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی نشاندہی کرتے ہوئے بذریعہ خطوط تنبیہ کرنا پڑی مگر سابقہ حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی اس لئے اس کو وہ روز بد دیکھنا پڑا کہ اسمبلی اور حکومت توڑ دی گئی اور عام انتخابات کے نتیجے میں ایک نئی مستحکم حکومت معرض وجود میں آئی۔

حضور والا! اگر سابقہ حکومت کی بدعنوانی کا ذکر کرنا چاہوں تو اس کے لئے ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ میں وقت کی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختصراً چند باتیں عرض کروں گا تاکہ سابقہ حکومت کے رویے سے موجودہ حکومت قومی مفاد میں کوئی سبق سیکھ لے۔ جناب والا! چند معروضات پیش کیئے دیتا ہوں صدر مملکت نے اسمبلی توڑنے کے بعد فوری طور پر چند اقدامات کیئے جن کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے فلور کراسنگ آرڈیننس کا نفاذ کیا جو آج کل قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں زیر غور ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس آرڈیننس کو مستقل شکل دے دی جائے تاکہ آئندہ اس برائی کا انسداد ہو سکے اور کوئی فلور کراسنگ کی جرأت نہ کر سکے اور بار بار حکومت کی تبدیلی کے لیئے عدم اعتماد کی تحریکیں پیش نہ ہوں۔ لہذا میں بھی اس چیز کی تائید کرتا ہوں کہ اسے قانونی شکل دی جائے اور اسے آئین کا ایک جزو بنایا جائے تاکہ حکومت مستحکم بنیادوں پر کام کر سکے۔

جناب والا! سندھ میں لاء اینڈ آرڈر کے لئے کافی کوشش کی گئی ہے اور جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں اور اس سلسلے میں مزید انقلابی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اگر ضرورت پڑے تو بدمعاشوں اور ڈاکوؤں کا قلع قمع کرنے کے لئے اگر فوج کو بھی استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہو گی بلکہ فوج کو ضرورت کے وقت اس کام پر مامور کیا جا سکتا ہے جب سول ایڈمنسٹریشن کو اس کی مدد کی ضرورت پڑے تو فوج امن وامان کو بحال کرنے کے لئے تعاون کر سکتی ہے تاکہ لوگ سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں اور وہ آرام کی نیند سو سکیں۔

دوسرا آرڈیننس جو صدر صاحب نے جاری کیا وہ تاوان وصول کرنے والوں کے لئے اغوا کرنے والوں کو موت کی سزا دینے کا ہے اور اس کے بھی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے اور سینیٹ اسے بلا کسی عذر کے جلد از جلد پاس کر دے گی اور ہم اسمبلی سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس بل کو پاس کرے گی کیونکہ جب تک گرفت سخت نہیں ہو گی خوف و ہراس سے نجات نہیں ملے گی اور امن عامہ کی صورتحال بہتر نہ ہو گی اور اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے۔

حضورِ والا! اس کے بعد صدر مملکت نے قصاص و دیت کا آرڈیننس جاری کر کے بہت بڑا کام کیا ہے کیونکہ ملک میں شریعت کا نفاذ ہو گا اور آئی جے آئی کی حکومت کا بھی یہی مینڈیٹ ہے کہ ملک میں شریعت کا نفاذ ہو انشاءاللہ وہ بھی بل کی شکل میں آئے گا اس پر سابق حکومت نے بڑا واویلا مچایا تھا کہ اس میں وحشیانہ سزائیں ہوں گی انہوں نے اسلام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اس پلیٹ فارم سے غائب ہو گئی۔ حضورِ والا! اس کے بعد میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ سابق دور میں سینیٹ نے اپنا کردار بڑا خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح ڈٹ کر اس حکومت کا مقابلہ کرتی رہی جس نے ان کے خلاف vilification کا پروگرام شروع کیا اور آٹھویں ترمیم کی منسوخی کا نعرہ لگایا۔ حضورِ والا! سینیٹ کا کردار قابل تحسین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی خراجِ تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافی نقصانات برداشت کیئے انہیں واقعی روحانی تکلیف بھی ہوتی لیکن انہوں نے ایک شیر کی طرح سارے ملک میں منظم طریقے سے ایک

[Mr. Shad Muhammad Khan]

مہم چلائی جس میں خاص طور پر آئی جے آئی کا رول بڑا اہم ہے اور اس کے نتیجے میں اور صدر مملکت کے آرڈیننس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت وجود میں آئی ہے جس کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو سامنے آئے انشاءاللہ تعالیٰ اسے منہ کی کھانی پڑے گی لہٰذا میں ان کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں ان سے توقع رکھوں گا کہ وہ اپنا خاص اصلاحی پروگرام شروع کریں اس اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں دیہات کی طرف خاص توجہ دی جائے انہوں نے دیہات کے لئے جو نیا پیکج انڈسٹریلائزیشن پروگرام دیا ہے خدا کرے کہ وہ کامیاب ثابت ہو اور یہاں سے دیہات پھلیں اور پھولیں اور اس سے پہلے یہ مفاد شہری آبادی حاصل کرتی رہی ہے اب دیہاتی عوام بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے حضور والا! میں یہاں یہ ذکر بھی کرونگا کہ وہ انقلابی پروگرام جو محمد خان جونیجو صاحب نے پانچ نکاتی پروگرام کے تحت جاری کیا تھا وہ ان تین سالوں میں سابقہ حکومت (پیپلز پارٹی کی حکومت) کے انقلابی اقدامات کی نذر ہو گیا۔ انہوں نے بیک قلم اس پروگرام کو منسوخ کر دیا اور ایک نئے پروگرام کو شروع کیا جس میں اپنے پروردہ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے اس پروگرام کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور خاص طور پر صوبائی خود مختاری کو زک پہنچا کر ان صوبوں کو بالکل بیکار کر دیا لہٰذا میں اولین فرصت میں موجودہ حکومت سے استدعا کروں گا کہ اس پروگرام کو بحال کر کے بہتر طریقے سے چلائے تاکہ دیہاتوں کو اس سپیشل پروگرام سے فائدہ پہنچے۔ اے ڈی بی کا پروگرام بڑا محدود ہوتا ہے اس سے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ سرتاج عزیز صاحب اولین فرصت میں وزیراعظم صاحب کے نوٹس میں لا کر کم از کم ان سکیموں کو جو تشنۂ تکمیل ہیں اور ان کے فنڈز پچھلے ۱۰ ماہ سے بند ہیں اور نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ سابق حکومت نے خاص طور پر اس سلسلے میں سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا۔

Mr. Hasan A. Shaikh: Mr. Chairman, through you I request Mr. Sartaj to listen to the honourable Member.

Mr. Chairman: I am sure he is listening. He has got two years.

جناب شاد محمد خان - سابقہ حکومت نے ان فنڈز کو بالکل جامد کر دیا تھا جس کی بنا پر وہ

منصوبے تباہ و برباد ہو رہے ہیں کم از کم ان کے لئے فنڈز واگزار کر کے فی الفور ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ حضور والا! صدر مملکت نے اندرونی حالات کے علاوہ خارجہ پالیسی کے پیرائے میں نہایت احسن طریقے سے امریکہ، روس، چین اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کی اصلاح کے لئے بھی توجہ دی ہے لہٰذا اب خلیج کی صورتحال کی وجہ سے کچھ حالات بدل گئے ہیں اور پریشان کن حالت ہمارے سامنے آ گئی ہے معاشی حالت خراب ہو رہی ہے اور امکان ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ لہٰذا جناب والا! یہاں میں جرأت سے تجویز کروں گا کہ حکومت نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ۴۰ فیصد قیمتیں بڑھانے کے بعد کچھ ٹیکس ہٹا دیئے ہیں، حکومت نے امپورٹ ڈیوٹی اقرأ سرچارج یا ایکسائز ڈیوٹی میں جو رعایت دی ہے اس سے فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوا ہے جو ٹرانسپورٹ بزنس میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہی ٹیکس بحال رہتا اور اسے اجناس خوردنی میں سبسڈی دینے کے لئے منتقل کیا جاتا جس سے عوام کو بھی فائدہ ہوتا اور مذکورہ بالا لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا۔ لیکن ان اقدامات کے بعد ان لوگوں نے جنہوں نے گاڑیاں چھپا رکھی ہیں، کوئی باہر نہیں لاتا کیونکہ وہ انتظار میں ہیں کہ مہنگے داموں بیچیں گے، سستے داموں وہ بیچ نہیں سکتے اس لئے میں عاجزانہ طور پر کہوں گا بلکہ یہ مطالبہ کروں گا کہ اگر یہ ٹیکس بحال رہے اور اس کو subsidized divert کر کے اجناس خوردنی کی طرف لے جایا جائے تو اس سے عوام کو فائدہ ہو گا۔

حضور والا! ہر لحاظ سے، ہر نقطۂ نظر سے صدر مملکت نے اشارات فرمائے ہیں، میں مختصراً ان کے چند ایسے اقتباسات پڑھ کر سناؤں گا کہ اگر ان پر موجودہ حکومت عمل کرے تو انشاءاللہ پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی اور عوام کی بہبود کے لئے بہت سے کام ہو سکیں گے۔

انہوں نے کہا ہے "پاکستان کے عوام باشعور اور حقیقت پسند ہیں انہیں احساس ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، جس کی ضرورتیں لامحدود اور وسائل محدود ہیں چنانچہ نہ وہ تو آسمان سے تارے توڑ لانے کی فرمائش کرتے ہیں اور نہ ہی زمین پر جنت کی تعمیر کے خواب دیکھتے ہیں البتہ وہ سکون کے ماحول میں اپنی ضروریات کی فراہمی اور اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کی امید ضرور رکھتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ ان کا حق ہے کہ

[Mr. Shad Muhammad Khan]

پر تکلف دستر خوان نہ سہی، دو وقت کی عزت کی روٹی کسی کو ملے، ریشم و کمخواب ہو یا نہ ہو پر سوتی کپڑا تو ہر کسی کے ہو۔ محل دو محلے ملیں یا نہ ملیں، چھت سب کو نصیب ہو اعلیٰ ملازمتیں نہ سہی اہلیت کے مطابق روزگار کے مواقع ہر کسی کو میسر ہوں۔ ایئر کنڈیشنڈ کلینک اگر نہیں تو علاج معالجے کے لیئے صاف ستھرے ہسپتال تو سب کے لیئے ہوں۔ عالی شان درسگاہیں ہوں نہ ہوں عام سکول تو ہر بچے کو میسر آئیں،،

حضور والا! اگر حکومت ان چند ترقیاتی سکیموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرے تو کافی حل ہو سکتے ہیں۔ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ کم از کم خوراک کے لیئے تو انہیں سہولتیں ہیں۔ عالی شان بنگلے نہ سہی لیکن کھانے پینے کے لیئے چیزیں تو ملیں۔ لہٰذا میں استدعا کروں گا کہ حکومت اس تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے انقلابی اقدامات ضرور کرے تاکہ عوام کی بھلائی ہو سکے۔

جناب والا! آخر میں، میں یہ عرض کروں گا کہ صنعت اب بھی حکومت کی پالیسی پر عمل کرے اس کی ہم نوا رہے گی، انشاءاللہ ہر مرحلے پر حکومت کے لیئے ممد و معاون ثابت ہو گی۔ شکریہ!

Mr. Chairman: Mr. Ghulam Faruque.

Mr. Ghulam Faruque: Mr. Chairman, Sir, listening to the speeches on the President's Address, it is highlighted that the great talent exists in this House and one has learnt a lot. This talent should be given frequent opportunity and should not be allowed to remain dormant. I should therefore, deviate and refer to something connected with the economics and at the same time I would be brief.

Mr. Chairman, Sir, a lot has been said about the address of the President. Un-fortunately, due to ill-health indisposition, I did not have the honour of listening to the address but I have studied from the copy supplied by the Senate Secretariat. One would have thought that the date of ceremonizing is over and that with the advent of new parliament working in majority and Federal Government

headed by a great industrialist and down to earth the Prime Minister and the President who has been a bureaucrat of bureaucrats and an experienced financier, their joint contribution should go together for the economic rejuvenation of the country and to harness with a maximum national resources with which we are bound but such is not the case. We have gone to a stylish speaking from the pulpit of which there is no dearth in Pakistan. It has been again in our minds that the country is poor but such is not the case. A scope for development resents in 1948 a Britisher who had been a political Agent in Baluchistan told me that I should not believe that there was no water in Baluchistan. I had practical experience that a power plant was needed in Quetta and water was required. An American Engineer was deputed and water for the station was found and the power station is working today. The country has all the water at needs and agriculture can be developed twice over. It can serve at the greenery upto the Middle East. Baluchistan is a vast area which can be developed many times over. What is needed is to get out of our inferiority complex. The expectation being that the combination of an experienced financier combined with great industrial talent would join forces and work out a charter for the economic revival of the country but alas, our thinking has not changed. The Prime Minister's speech and the President's Address could have done dove tail to bring about the great changes obvious by the Prime Minister as the harbinger I regret to say very much that on every round I found the President's Address is disappointing.

Thanking you, Sir.

Mr. Chairman: Thank you. Malik Farid ullah Khan.

ملک فرید اللہ خان شکریہ، جناب چیئرمین! صدر مملکت کی تقریر پر معزز اراکین سینٹ نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے اس لیئے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کرونگا اور ان امور کی جانب حکومت کی توجہ نہیں دلاؤں گا جن کی جانب میرے معزز اراکین پہلے ہی توجہ دلا چکے ہیں۔ repetition نہیں کروں گا۔

جناب والا! پچھلے سال بھی صدر مملکت نے مجلس شوریٰ سے خطاب کیا تھا اور line of action دی تھی حکومت کو چاہیئے تھا کہ وہ اس سے استفادہ کرتی مگر اس نے نہیں کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کیئے گئے اور سینٹ کی تضحیک کی گئی صوبوں کے ساتھ محاذ آرائی کی پالیسی اختیار کی گئی اس کے علاوہ عدلیہ کے فیصلوں کو پس پشت ڈالا گیا۔ فوج کے ساتھ بھی محاذ آرائی کی پالیسی جاری رکھی گئی جس کا نتیجہ جناب والا! یہ نکلا کہ ملک اقتصادی اور معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ امن وامان کی حالت بڑی خراب تھی میں خصوصاً صوبہ سندھ کی بات کروں گا کیوں کہ وہاں تو جانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔

جناب والا! صدر مملکت کی 8 نومبر کی جو تقریر ہے اس میں بھی موجودہ حکومت کو ایک line of action دی گئی ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جن امور کی انہوں نے اپنی تقریر میں نشاندہی کی ہے اسکو عملی جامہ پہنایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت نے وقت ضائع کیا اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ قیادت مضبوط ہاتھوں میں ہے اور عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا ہے اسے چاہیئے کہ جو مسئلے تصفیہ طلب پڑے ہیں وہ جلد حل کر دیئے جائیں۔ عوام کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ان کے مسائل حل ہونے کا وقت آگیا ہے اور اگر ان امور کی طرف توجہ نہ دی گئی تو جناب چیئرمین! مستقبل کے مؤرخ کا قلم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔

جناب والا! ہم صدر مملکت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے از راہ کرم مجلس شوریٰ سے خطاب کیا۔ ہم صدر مملکت کے اس لیئے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے صحیح منصوبہ بندی کے لیئے ہماری رہنمائی کی۔ ہم صدر پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ان کی وجہ سے آج جمہوری ادارے مستحکم صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم صدر پاکستان کے اس لیئے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 20 ماہ کے دوران پارلیمنٹ کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دینے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ!

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جناب صاحبزادہ الیاس صاحب۔

صاحبزادہ محمد الیاس: جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لہذا تقریر کرنے سے قاصر ہوں۔

جناب چیئرمین: ٹھیک ہے جی پھر جناب عالم علی لالیکا صاحب۔

جناب عالم علی لالیکا: شکریہ جناب چیئرمین! میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے صدر ذی وقار کے خطاب پر بولنے کا موقع دیا۔ جناب والا! صدارتی خطاب کے وقت کے بارے میں میرے کچھ سینٹ کے بھائیوں نے اظہار خیال کیا ہے کہ کہ اس کا وقت مقرر ہونا چاہیئے کہ وہ کب، کس موقع پر اور کس وقت پر ہو۔ حالانکہ آئین کے آرٹیکل 56 (3) میں واضح طور پر مندرج ہے کہ ہر عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے پہلے اجلاس میں صدر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پھر جناب والا! صدر صاحب کے خطاب کو میرے کچھ بھائیوں نے monologue, duet, chous کے القابات سے نوازا ہے۔ اگر میں انہی کی زبان میں عرض کروں تو صدر صاحب کا کردار ایک بینڈ ماسٹر کا ہے جو کبھی مرثیہ خوانی کریں گے کبھی شادیانے بجائیں گے تو کبھی دعائیں دیں گے۔

جناب والا! 6 اگست کا اقدام اور 6 نومبر کو حکومت کا بن جانا نہ صرف آئینی تقاضوں کی تکمیل ہے بلکہ صدر پاکستان کے عزم صمیم اور مقصد کی نیک نیتی کا واضح ثبوت ہے جس میں مشیت ایزدی کے علاوہ کچھ دیگر عوامل کی بھی خاص عنایات شامل ہیں۔ اور انہوں نے جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع عطا فرمایا۔

جناب والا! آئین کا مطالعہ کرنے سے کہیں بھی نگران حکومت کا تصور یا خاکہ نظر نہیں آتا گو یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی بچانے والی بات ہے لیکن اس کے لئے آئین میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک منتخب ایوان کی موجودگی میں نگران حکومت میں اس کو نظر انداز کرنا ایک ایسا عمل تھا جس پہ اندرونی اور بیرونی طور پر بھی طعن و تشنیع کی گئی اور کی جاتی رہے گی۔ اور مؤرخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آئین کے تحت سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے اس کی موجودگی میں نگران حکومت میں اس کو نظرانداز کرنا اور ایک پارٹی کو

[Mr. Alam Ali Lalcka]

dissolve کر کے اس کے مدمقابل پارٹی کو نگران حکومت بنانے کی دعوت دینا ایک ایسا عمل ہے جو قابلِ تحسین و ستائش نہیں ہو سکتا۔

جناب والا! کیا انتخابات کا انعقاد آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدرانہ ہوا۔ اس پر مختلف آراء میں ایک رائے جو سامنے آتی ہے وہ ہر مکتبۂ فکر کے لوگوں کی زبان سے نکلتی ہے۔ ہر کامیاب ہونے والے آدمی سے نکلتی ہے کہ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوئے اور ہر ہارنے والے کے منہ سے یہ نکلتی ہے کہ انتخابات آزادانہ نہیں ہوئے، غیر منصفانہ اور غیر جانبدرانہ ہوئے۔ جناب والا! میں یہ عرض کروں گا کہ انتخابات اور اس میں دھاندلی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جیسے پھول اور خار، کانٹا اور پھول لازم و ملزوم ہیں جیسے نیکی و بدی لازم و ملزوم ہیں اور جیسے رحمٰن اور شیطان ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اسی طرح جناب والا! انتخابات اور دھاندلی لازم و ملزوم ہیں۔ اب انتخابات کے مختلف مراحل ہیں اوّل ترین مرحلہ خانہ شماری کا ہے اس کے بعد مردم شماری کا ہے ان کے بعد ووٹروں کی لسٹوں میں اندراج کرنا ہے پھر حلقہ بندی ہے جو کہ دھاندلی کی سب سے زیادہ مہذب قسم سمجھی جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک حلقے میں تمام کاوشیں کر کے کام کرتا ہے خدمت کرتا ہے محنت کرتا ہے اور اگر حلقہ بندی کرنے والا افسر اس کے مدمقابل سے متفق ہے تو وہ اس کو اس طرح سے اُس حلقے سے باہر نکال دیتا ہے جیسے وہ کبھی اُس حلقے سے متعلق تھا ہی نہیں۔ یہ دھاندلی کی بڑی ایک مہذب قسم ہے۔

جناب والا! ٹکٹ کسی پارٹی کی طرف سے کسی فریق کو دے کر اس کی حمایت سے دستبردار ہو جانا بھی دھاندلی کی قسم ہے۔ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر اُس پارٹی کے منشور کا پابند نہ رہنا بھی دھاندلی کی ایک قسم ہے۔ جناب والا! میں یہ کہوں گا اور یہ مسلمہ اور بلاشبہ بات ہے جہاں تک رائے شماری کا تعلق ہے۔ رائے شماری عدلیہ کی زیرِ نگرانی کرائی گئی ہے۔ رائے شماری میں دھاندلی ضرور ہوئی ہو گی لیکن اس قدر نہیں کہ یہ نتیجہ اخذ کیا جائے اور کہا جائے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شائد حکومت کوئی اور ہوتی۔ البتہ دھاندلی کو بیخ و بن سے اکھیڑنے کے لیے جناب والا! رائے شماری سے پہلے اور شماری کے بعد تمام لوازمات پر بھی

ہمیں خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ جناب والا! صدر ذی وقار نے فرمایا کہ انتخابات جہاں عوام سیاسی تربیت کا حصّہ ہیں وہاں سیاسی جماعتوں کے لیے خود احتسابی اور ذاتی اصلاح کا سبب بھی ہیں۔ جناب والا! شکست و جیت، عزت و ذلت منجانب اللہ ہے۔ البتہ جیتے ہوئے لوگوں کے لیئے لازم ہے کہ وہ ہارنے والوں کی غلطیوں کو سمجھ کر ان سے اجتناب کریں۔ اور ہارنے والے لوگوں کے لیئے الیکشن میں ایک درس ہے کہ وہ جیتنے والوں کی خوبیوں کو سمجھ کر ان کی تقلید کرنے کی کوشش کریں۔

جناب والا! عوام جب ایک امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں تو اس سے حکومت کی توقع نہیں کرتے بلکہ خدمت کی امید رکھتے ہیں۔ منتخب ہونے والے امیدوار کے لیئے احترام انسانیت لازمی امر ہے۔ انصاف اور رواداری لازمی چیز ہے۔ جناب والا! اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ قوم کا ہر فرد ناصح ہے لیکن نصیحت قبول کون کرے قوم کا ہر فرد تلقین کرتا ہے۔ عمل پیرا کون ہے۔

جناب والا! آئین پاکستان کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ممبران کے لیئے رہنما اصول درج ہیں۔ آئین کا آرٹیکل ۲ یہ کہتا ہے کہ اسلام ریاست کا سرکاری مذہب ہوگا۔ آرٹیکل ۳ یہ کہتا ہے کہ استحصال کا خاتمہ ریاست کرے گی۔ اور بنیادی اصول اپنائے گی یعنی ہر ایک سے حسب استطاعت اور ہر ایک کو حسب کام۔ میں دیکھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل ۳ جو ہے اس میں یہ گارنٹی کی گئی ہے کہ ریاست استحصال کے خاتمہ اور ہر ایک سے حسب استطاعت اور ہر ایک کو حسب کام، کے اصول کو یقینی بنائے گی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ نزلہ بر عضو ضعیف ہی گرتا ہے۔ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچتے بچاتے کوئی اپنے لیئے راستہ نکال لیتے ہیں۔ اور جو لوگ بے چارے بے دست و پا ہوتے ہیں خواہ وہ معاشرتی طور پر ہوں یا کسی اور طرح، زد انہی پر پڑتی ہے۔

جناب والا! صدر پاکستان نے بجا طور پر فرمایا ہے کہ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ضرورتیں لامحدود ہیں اور وسائل محدود۔ جناب والا! مجھے ایک پسماندہ علاقے سے اسلام آباد آ کر یہ محسوس ہوا ہے کہ ہمارے وسائل بلا شبہ محدود ہیں لیکن ضرورتیں بھی لامحدود ہیں۔ جب میں غربت کا مقابلہ امارت سے کرتا ہوں۔ ضروریات

[Mr. Alam Ali Lalcka]

زندگی کا مقابلہ اشرافیہ یہاں سے کرتا ہوں۔ ایک نان شبینہ کا مقابلہ شہروں کی ہوٹلنگ سے کرتا ہوں۔ جہاں لوگ گھر کا پکا پکایا کھانا چھوڑ کر ایک شام ہوٹل میں گزارنے کے لئے فیشن کے طور پر جاتے ہیں اور کسی آدمی کا بل دو سو روپے سے کم کا نہیں آتا ہے۔ یہ ایک فیشن ہے۔ جناب والا! آج بھی پاکستان کے اس مہذب معاشرے میں انسان اور حیوان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ جب کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کوکا کولا اور سیون اپ پیتے ہیں بلکہ اب تو tonic water اور mineral water بھی ملک کی ضرورت بن گیا۔

جناب چیئرمین: ایک منٹ تشریف رکھیں۔ پرائم منسٹر صاحب آگئے ہیں۔

جناب چیئرمین: جناب محمود احمد منٹو صاحب۔

جناب محمود احمد منٹو: بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ۔

جناب چیئرمین! سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا اور وزیراعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب کی سینیٹ کے اجلاس میں پہلی بار تشریف آوری پر خیر مقدم کرنے کی سعادت بخشی۔ دراصل یہ اعزاز لیڈر آف دی ہاؤس جناب محمد علی خان ہوتی صاحب کا ہے۔ لیکن آج وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ کیونکہ ان کے ایک قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس بنا پر وہ اچانک مردان چلے گئے ہیں۔ ہم محمد علی خان ہوتی صاحب کے عزیز کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی غیر موجودگی میں اس ایوان سے خطاب کرنے اور وزیراعظم پاکستان کو خوش آمدید کہنے کا اعزاز مجھے ملا ہے۔

جناب عالی! ہمیں خوشی ہے کہ آج وزیراعظم پاکستان ایوان بالا کے اس اجلاس میں شریک ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ سینیٹ کی کارروائی میں باقاعدگی کے ساتھ حصہ لیں گے۔ کیونکہ سینیٹ کے تمام اراکین قانون سازی کے عمل میں بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کی آج کے اجلاس میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس معزز ایوان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ گذشتہ رات بھی انہوں نے سینیٹ کے

پارلیمانی گروپ کے ساتھ خصوصی نشست میں اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل بھی انہوں نے سینٹ کے ارکان کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ جس میں تمام اراکین کو وزیر اعظم پاکستان سے قومی امور پر تبادلہ خیالات کرنے کا موقع ملا۔ ہم وزیر اعظم کے ان تمام اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طرح اس ایوان کے معزز اراکین عوام کے احساسات کے ترجمان ہیں اسی طرح وزیر اعظم پاکستان ملک کے دس کروڑ عوام کی خواہشوں اور امنگوں کے محور اور مرکز ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف کی گذشتہ انتخابات میں بے مثال کامیابی ان کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ان کی والہانہ قیادت میں آئی جے آئی کو پورے ملک میں عوام نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے۔ عوام کا یہ واضح مینڈیٹ ثابت کرتا ہے کہ انہیں نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے۔ ہم عوام کے ان جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور سینٹ کے اراکین بھی جناب نواز شریف صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے گذشتہ برسوں میں جن انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اس سے قوم کا ہر شخص بخوبی واقف ہے ۔ آج وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے ہمارے درمیان ان کی موجودگی جمہوریت اور پارلیمنٹ کے احترام کا بیّن ثبوت ہے۔ جناب نواز شریف صاحب اعلیٰ پارلیمانی روایات کے علمبردار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کی حاکمیت پر پختہ یقین ہے اسی طرح ایوان کے معزز اراکین بھی قوم کی حاکمیت اعلیٰ کے علمبردار ہیں۔ وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیئے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے گذشتہ رات کی میٹنگ میں ارشاد فرمایا کہ وہ اہم قومی امور پر ایوان بالا اور ایوان زیریں کے تمام اراکین کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پر موجودہ شریعت بل کی controversial clauses پر اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کئی اراکین نے گذشتہ رات بھی وزیر اعظم صاحب کو یقین دلایا تھا کہ سینٹ کے ارکان آپ سے بھرپور تعاون کریں گے ۔ نہ صرف شریعت بل بلکہ ہر اس اقدام میں تعاون کریں گے جو قوم اور ملک کے

[Mr. Mahmood Ahmed Minto]

وسیع تر مفاد میں اٹھایا جائے گا۔ قانون سازی کے عمل میں ایوان بالا ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے اراکین تمام مجوزہ قوانین پر بھرپور غور و خوض کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں اور حکومت کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ شریعت بل کے مسئلہ پر اس ایوان نے پہلے قدم اٹھایا ہے۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے۔ وزیراعظم صاحب خود بھی اس مسئلے پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اور اس ایوان نے بہت سے اہم امور پر قانون سازی کی ہے۔ اہم قومی امور کو زیر بحث بھی لایا گیا ہے۔ یہاں پر کمیٹی سسٹم بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی سسٹم سے نہ صرف اہم قومی امور میں شرکت ہوتی ہے بلکہ پارلیمنٹ کی طرف سے احتسابی عمل زیادہ بہتر اور مؤثر ہو جاتا ہے۔

ایوان بالا نے خشت اوّل کے طور پر اپنی سعی کوشش کی ہے لیکن قانون سازی کے عمل میں اصلاح کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے اور اس سلسلے میں ہماری کوشش جاری رہے گی اس طرح سے ڈیفیکشن کلاز اور دیگر امور پر بھی اس معزز ایوان کے اراکین وزیراعظم پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے ہم ان کے ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جو ملک و قوم کی بہتری میں اٹھایا جائے گا۔ ہم اس ملک میں اسلامی نظام لانے کی کوششوں میں بھی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ جناب والا! میں ان خیر مقدمی الفاظ کے ساتھ اپنی گذارشات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی اس نشست میں وزیراعظم پاکستان نے بھی اپنے خیالات سے ہمیں نوازنا ہے لہٰذا میں آپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب ایوان کی کارروائی میں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہیں گے کیوں کہ ماضی میں چند حکمرانوں نے اس ایوان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں جمہوری عمل اور جمہوری روایات کو نقصان پہنچا لیکن نواز شریف صاحب کی اس ایوان سے دلچسپی یہ ثابت کرتی ہے کہ آئندہ اس ایوان کو نہ تو نظر انداز کیا جائے گا اور نہ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی جو خوشگوار فضا اس وقت قائم ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گی اور ایوان کے اراکین اور حکومت کے درمیان تمام اہم قومی امور پر

باہمی اشتراک اور مفاہمت کی فضا جاری رہے گی۔

جناب چیئرمین: شکریہ جی، جناب جبار صاحب

Mr. Javed Jabbar: Mr. Chairman, I thank you for affording me this opportunity to express my views on this auspicious occasion. Mr. Chairman, the opposition welcomes to this august House the Leader of the House, the Prime Minister of Pakistan Mian Muhammad Nawaz Sharif and takes this opportunity to express its commitment to constructive cooperation with the Government in the maintenance and the strengthening of democratic and parliamentary institutions and indeed in any other matters which concern the supreme national interest.

Mr. Chairman, I take this opportunity also to affirm that the Opposition is proud to belong to the Senate of Pakistan because over the past six years this House has demonstrated a consistent commitment to the principles of constitutionalism and has sought to expand the frontiers of democracy and at critical moments has helped reflect public opinion. Mr. Chairman, the opposition in the Senate may be numerically extremely small, disproportionately slow so in comparison to the government but it is perhaps appropriate and necessary to remember that the opposition in the Senate represents symbolically the over forty per cant of the electorate that voted in the 1990 elections for a party that does not have appropriate numerical representation in the Senate and despite the fact that the Senate's composition is a curious anomalous and that it will not be until 1994 that the Senate will fully begin to reflect a party based parliamentary and democratic structure the opposition nevertheless continues to affirm its belief in the validity of view points and debates and discussion which are undertaken in the Senate. Mr. Chairman, the opposition recognizes that the government faces an extremely complex and difficult situation both domestically regionally and internationally and

[Mr. Javed Jabbar]

perhaps 1991, January the 2nd is a good opportunity to point out that the Opposition looks forward to a paradoxical yet healthy relationship with the Government. I say paradoxical Mr. Chairman, because I believe that it should be based on two elements; (1) that of a creative consensus, a creative consensus on the basic issues such as illiteracy health, education, population welfare, energy, environment on which there can be no two opinions on the urgency and the imperatives of these sectors. At the same time the relationship between the Government and the Opposition should also be that of a dynamic tension, a genuine and healthy dynamic tension which leads to the ultimate good of the country. The Opposition also hopes that the Government will use the opportunity given to it by the people of Pakistan to rationalize the Constitution and to remove long lingering anomalies and contradictions. In conclusion Mr. Chairman, the Opposition requests the Government to give the highest possible priority to improving the enforcement of law. I say this Mr. Chairman, because this as a legislative body is primarily concerned with the creation of law, yet Pakistan faces a profound crisis where law and almost every sector failed to deliver justice and equity to the people of Pakistan. There is no shortage of well meaning laws in our country and without necessarily adding to them the Government and the Opposition should work together to improve the enforcement of law. Thank you Mr. Chairman, for giving me this opportunity.

Mr. Chairman: Prime Minister of Pakistan

ADDRESS BY THE PRIME MINISTER.

جناب محمد نواز شریف (وزیر اعظم): بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، جناب چیئرمین! سینیٹ کے اجلاس میں میری آمد پر جس محبت سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اس ایوان بالا کے معزز اراکین نے میرا خیر مقدم کیا ہے اس پر میں آپ سب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ جناب منظور صاحب نے خیر مقدمی الفاظ جو میرے بارے میں

کہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح سے جناب جاوید جبار صاحب کے الفاظ، ان کے خیالات و احساسات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سینٹ دستور پاکستان کا اہم ستون ہے یہ ادارہ قانون سازی کے عمل میں توازن اور تسلسل کا ذریعہ ہے اس کے اراکین اپنے تجربے، علم اور بصیرت کی بنا پر قومی معاملات میں ارباب اختیار کی رہنمائی میں خصوصی کردار ادا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد سینٹ کے پہلے ہی اجلاس میں شریک ہو کر اس باوقار ادارے سے اپنا قریبی تعلق مزید مضبوط کرنا چاہتا تھا لیکن سینٹ کا پہلا سیشن صرف ایک دن کی کارروائی کے بعد ایک معزز سینیٹر جناب اسحاق بلوچ کے انتقال کی وجہ سے ملتوی ہو گیا موجودہ سیشن کے پہلے دن کی کارروائی میں بھی میں خواہش کے باوجود شریک نہ ہو سکا لیکن آج میں یہاں حاضر ہوں۔

جناب چیئرمین! میرا یہ یقین ہے کہ قوموں کی کامیابی اور ترقی، قومی اداروں کی مضبوطی اور استحکام سے منسلک ہے یہی وجہ ہے کہ میں شخصی حکومت یا انفرادی اقتدار کی بجائے اداروں کی عظمت اور بالادستی کو اہمیت دیتا ہوں، آج کل بعض حلقوں میں سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کا سرچشمہ کس کے قبضے میں ہے۔ حکومت میں بالادستی کس کو حاصل ہے کون کاروبار مملکت کا مالک و مختار ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ ملک میں اقتدار کا سرچشمہ اللہ تعالےٰ کے بعد ملک کا آئین ہے حکومت میں بالادستی دستور اور قانون کو حاصل ہے اور کاروبار مملکت کے مالک و مختار وہ منتخب ادارے ہیں جو ہم نے اسلام کی روح اور عوام کی رائے کی بنیاد پر تشکیل دیئے ہیں، دستور اور قانون کی حکمرانی ہی جمہوریت ہے اور اختیارات کی آئینی تقسیم ہی عوام کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے۔ ہم نے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے جو منصوبے بنائے ہیں ان میں دستور اور قانون کی بالادستی کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ دستوری حکومت، دستوری اداروں کے استحکام کے بغیر ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ ہم آئینی تقاضوں کے مطابق قومی اداروں کی توقیر بحال کرنے میں پوری تندہی سے مصروف ہیں۔

[Mr. Muhammad Nawaz Sharif Prime Minister]

جناب چیئرمین! جس نظام حکومت کا محور آئین اور قانون ہو اس میں قانون ساز اداروں اور قانون سازی کے عمل کو مرکزی اہمیت حاصل ہوتی ہے میرے لئے یہ بات باعث افتخار ہے کہ ہماری حکومت نے دو ماہ سے کم مدت میں کئی قوانین کے مسودے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کئے ہیں۔ قانون سازی کے ضمن میں مختصر عرصہ میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ہمارے اس عہد کی تکمیل ہے کہ ہم عوام سے کیئے گئے وعدوں پر عمل درآمد میں تاخیر نہیں کریں گے معاشی اور اقتصادی تبدیلیوں کے محاذ پر بھی ہماری رفتار قوم کی توقعات کے مطابق رہے گی اور قانون سازی کو بھی انشاء اللہ بے جا سست رفتاری کا شکار قطعاً نہیں ہونے دیا جائے گا۔

جناب چیئرمین! میرے دل میں سینٹ کی بڑی قدر و منزلت ہے اور اس کے وقار اور آئینی مقام کو تسلیم کرنا اور دوسرے افراد اور اداروں سے اس کے مقام کو تسلیم کرانا میری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ سینٹ وفاق پاکستان کی یک جہتی مضبوطی اور سلامتی کی علامت ہے آئین کے مطابق صوبوں کی مساوی نمائندگی اس ایوان کی کارروائی کو مزید بامقصد بنا دیتی ہے اور سیاسی نظام میں ایک توازن قائم رکھتی ہے۔ ۱۹۸۵ء میں موجودہ ایوان بالا کی تشکیل سے لے کر آج تک سینٹ کی کارکردگی ہمیشہ حوصلہ افزا اور مثالی رہی ہے اس ایوان نے قومی تاریخ کے انتہائی نازک ادوار میں اہم خدمات انجام دی ہیں۔ صدر مملکت کے خطاب کے حوالے سے قومی امور پر اظہار خیال ہو یا کسی آئینی مسلئے پر بحث و تمحیص، کسی مقامی مسلئے کا فوری حل درکار ہو یا بین الاقوامی سطح پر پاکستانی رائے عامہ کی نمائندگی یا ملک کی داخلی صورت حال پر حکومت وقت کی رہنمائی مطلوب ہو یا ملک کی خارجہ پالیسی پر اظہار خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا یہ ایوان ہمیشہ پیش پیش رہا ہے۔ اس ایوان کی اچھی ساکھ اور مقصدیت میں موجودہ سینٹ کے پہلے چیئرمین اور موجودہ صدر مملکت جناب غلام اسحاق خان کی خدمات بھی ہماری پارلیمانی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں اور ان کی روایات کو اپنی آئینی مہارت اور اعلیٰ قانونی

صلاحیتوں کے ساتھ جس قابلیت اور خوش اسلوبی سے اس ایوان نے آگے بڑھایا ہے میں اس کا بھی ذاتی طور پر مداح ہوں ۔

جناب والا! ایوان بالا نے قانون سازی اور دوسری آئینی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا جو مثالی ریکارڈ قائم کیا ہے وہ بذات خود قابل تحسین ہے۔ سینیٹ کی کمیٹیوں نے گذشتہ برسوں میں حکومت وقت کی رہنمائی اور احتساب کا فرض جس خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے اس کا اعتراف کرنا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں - جناب چیئرمین! میں اس اعلیٰ کارکردگی پر آپ کو اور تمام اراکین سینیٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں - میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی پالیسیوں کی تشکیل میں اور مختلف حکومتی امور میں سینیٹ سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی - انشاءاللہ میں خود بھی اس ایوان میں وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا تا کہ اس ایوان کی کارروائی سے مستفید ہو سکوں۔ جناب چیئرمین! آنے والے دنوں میں حکومت اور عوام کے منتخب نمائندوں نے کئی اہم فیصلے کرتے ہیں ملکی قوانین اور سرکاری پالیسیوں میں کئی تبدیلیاں لانا لازم ہو گیا ہے تاکہ عوام کی خواہشات اور توقعات کو پورا کیا جا سکے۔ عوام کے لئے انصاف کے حصول کو سستا اور آسان بنانا چاہتے ہیں ملکی معیشت کو ناروا پابندیوں سے آزاد کر کے اقتصادی ترقی کی راہیں کھولنا چاہتے ہیں - زراعت کو جدید بنانا اور صنعت کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ صحت اور تعلیم کی سہولتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے قوم کو خود انحصاری کی منزل کی طرف لے کر جانا ہے اکیسویں صدی میں دوسری قوموں کے ہم قدم بنانا ہے - یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے وعدوں دعووں اور نعروں کو تیز رفتاری کے ساتھ عملی شکل دیتے چلے جائیں قومی اسمبلی اور سینیٹ دونوں کو اس سلسلے میں قانون سازی کا فریضہ انجام دینا ہے - خود انحصاری کو قومی ہدف قرار دینے کے بعد ایسے قوانین اور قواعد کی تشکیل قانون ساز اداروں کی ذمہ داری ہے جو اس ہدف کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ میری حکومت محض انتظامی اقدامات، یا ایگزیکٹو decisions پہ یقین نہیں رکھتی بلکہ اہم معاملات میں

[Mr. Muhammad Nawaz Sharif Prime Minister]

قانون سازی اور legislative action کو بھی فوقیت دیتی ہے اس وقت بھی مقننہ کے سامنے ایسے قوانین غور کرنے کے لئے موجود ہیں جو قوم کی خواہشات کے آئینہ دار ہیں۔ مجھے اعتماد ہے کہ متفقہ شریعت بل کی منظوری کے لئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اراکین پوری کوشش کریں گے جو انشاءاللہ عنقریب پیش کیا جا رہا ہے۔ منتخب نمائندوں کی ساکھ اور وقار کو محفوظ کرنے اور ہارس ٹریڈنگ کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کرنے کی غرض سے فلور کراسنگ کے بارے میں جو آرڈیننس اس وقت مقننہ کے سامنے ہے اس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیئے۔ ہمارے منتخب ایوانوں کو سیاسی تنگ نظری اور ذاتی و گروہی مفادات کا اکھاڑہ بننے سے روکنے کے لئے ہم سب کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ میری حکومت جو آپ سب کی حکومت ہے مجھے یقین ہے کہ ملکی بہتری کے لئے جو بھی اقدامات کئے جائیں گے مجھے اس میں آپ کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ پاکستان پائندہ باد

FURTHER DISCUSSION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS —— (CONTINUI

جناب چیئرمین: عالم علی لالیکا صاحب آپ صدر کے خطاب پر اپنی تقریر جاری رکھیئے

جناب عالم علی لالیکا: جناب والا! میں ضرورتیں لا محدود اور وسائل محدود کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غربت بمقابلہ امارت، ضروریات بمقابلہ بےجا اسراف بنیادی نان۔ شبینہ بمقابلہ ہوٹلنگ، پینے کا پانی بمقابلہ ٹانک واٹر اور منرل واٹر لوگ تو کھلے آسمان میں ایک سائے کے لئے بھی ترستے ہیں۔ جناب والا! میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے عالی شان بنگلوں کی اندرونی آرائش کے علاوہ بیرونی تزئین پر زر کثیر خرچ کر دیا جاتا ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکا

تزئین تو بعض ضروریات کے لئے ضروری ہے جیسے اس ہاؤس میں wood panelling ضروری ہے کہ echoing نہ ہو لیکن بیرونی تزئین تو اسراف بے جا ہوتا ہے۔ جو ہمارے دل جلانے کے لئے ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ترسانے کے لئے ہوتا ہے جو بے چارے ایک جھونپڑا بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی کیا ضرورت ہے، اس

کاکیا فائدہ ہے۔ اسس آرائیش و تزئین سے اس مکان کے مکینوں کو کیا سہولیت حاصل ہوتی ہے۔ ماسوائے اسس کے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اور ہم یوں بھی کر سکتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں تو شائید خدا بھی تمہارا پرسان حال نہ ہو۔

جناب والا! آج بھی اس ملک میں بغیر چھت کے بغیر ٹاٹ کے کئی ایسے سکول موجود ہیں جہاں قوم کے بچے گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں درختوں کے بڑے باریک سے سائے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جناب والا! یہاں ایچیسن ہاؤس، چیفس کالج امریکن سکول جیسے ادارے موجود ہیں۔ اور دیہات کے لوگ، پسماندہ علاقوں کے لوگ، متوسط طبقے کے بچے بھی ان سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کو ترس جاتے ہیں۔ جناب والا! پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی آئین کے آرٹیکل ۳۷ الف کے تحت ضروری ہے اور اس آرٹیکل میں اس کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ جناب والا! حالت تو یہ ہے کہ دیہات میں لوگ ڈسپرین کی گولی کو ترستے ہیں۔ جناب والا! مراعات یافتہ طبقہ کے لوگ بغیر کسی بیماری کے بغیر حجت کے فقط چیک اپ کرانے کے لیئے امریکہ اور ولائیت کے دورے کرتے ہیں اور زر کثیر خرچ کیا جاتا ہے۔ ظاہراً ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا صرف چیک اپ کروانے کے لیئے وہ باہر جاتے ہیں۔ جناب والا! کتنی disparity ہے کتنا عدم توازن ہے

جناب والا! اب میں طرز حکومت کی طرف بھی توجہ مبذول کراؤنگا۔ موجودہ طرز حکومت برطانوی طرز حکومت کی legacy ہے جو انہوں نے اپنی کالونیوں پر حکومت کرنے کے لیئے اس ملک میں جاری وساری کی تھی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آسکی کہ ہم اس مغربی جمہوریت کو بلا وجہ اپنائے ہوئے ہیں۔ جناب والا! جب میں نے غور و فکر کیا تو مغربی جمہوریت کی انتہا معلوم ہوئی کہ اس نے مغربی ممالک میں homosexual marriage کو legalize کر دیا ہے۔ اور

[Mr. Alam Ali Lalcka]

جناب والا! سویلین اسلام) کی ابتداء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو بدالت سے باز نہ آنے کی پاداش میں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے بشمول بیواؤں اور یتیموں کے غرق کر دیا۔ جناب والا! کتنا تضاد ہے مغربی جمہوریت اور ہمارے اسلامی نظام حکومت میں۔ جناب والا! یہ مغربی نظام معیشت ہے جس کی وجہ سے ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں۔

جناب چیئرمین۔ دراصل مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اس لئے میں اس اجلاس کو ساڑھے پانچ بجے تک ملتوی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی تقریر جاری رکھیں گے۔

[اجلاس کی کارروائی کو نماز مغرب کے لئے ملتوی کر دیا گیا]۔

[وقفہ نماز کے بعد اجلاس کی کارروائی زیر صدارت چیئرمین (جناب وسیم سجاد) دوبارہ شروع ہوئی]

FURTHER DISCUSSION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (RESUMED)

جناب چیئرمین۔ جی لالیکا صاحب آپ جاری رکھیں۔

جناب عالم علی لالیکا:۔ جناب والا! میں مغربی طرز جمہوریت کا ذکر کر رہا تھا اور اس سلسلے میں، میں نے ایک حوالہ عرض کیا تھا کہ مغربی جمہوریت انسانیت کو کہاں سے کہاں تک لے گئی اور اسلام نے انسانوں کی فلاح کے لئے کیا درس دیے۔ جناب والا! ۱۹۸۵ کے ورلڈ اکنامک ٹائم میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جو بدقسمتی سے مجھے دستیاب نہیں ہوا جس میں قائداعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پارلیمانی نظام حکومت مسلمانوں کے ضمیر مسلمانوں کے خیالات و سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جناب والا! یہ پارلیمانی نظام حکومت ہی کی برکات ہیں کہ جس میں ہارس ٹریڈنگ جیسی گندی اور غلیظ اصطلاحیں پیدا کرنے کا ہم لوگوں نے موقع دیا ہے۔ پارلیمانی نظام یا مغربی جمہوری نظام جو بھی نام اس کو دے دیجئے گا بہرکیف اس پر مغربیت کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ یہ طرز حکومت جناب والا! انگریزوں نے اپنی کالونیوں کو محکوم رکھنے کے لئے اور بالخصوص ہندوستان میں رائج کیا تھا

خود تو وہ لوگ جناب والا! اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں یا انہوں نے جمہوریت کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اپنی برائیوں کے علاوہ کہ وہاں ہر ضلعی کو سطح پر جیتنے والی پارٹی کمیٹیوں کو نامزد کرتی ہے اور ضلعی سربراہان ان کمیٹیوں کے سیکریٹری بن کر بیٹھتے ہیں اور منتخب اراکین کی نامزد کمیٹیاں مقدمات کے فیصلے کرتی ہیں۔ ان کا فیصلہ source of law شمار ہوتا ہے۔

جناب والا! اب زمانہ یہ آگیا ہے کہ مغربی جمہوری نظام نے ہمیں سیاست کا جو مفہوم سکھایا ہے کہ وہ یہ کہ منافقت کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے یا سیاست کے معنی منافقت کے لئے جاتے ہیں، صداقت کا مفہوم جہالت کا لیا جاتا ہے۔

یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود

جناب والا! ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں صدر صاحب ذی وقار نے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کر سکے گا جس پارٹی کا ٹکٹ لے کر کوئی آدمی کامیاب ہوا ہو اس سے وہ انحراف نہیں کر سکے گا لیکن جناب والا! آئین کے آرٹیکل ۷ میں اس کا تضاد موجود ہے کہ کسی آدمی کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب جناب والا! خیال فرمائیے گا کہ اگر اس پر پابندی نہیں لگاتے تو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے کوئی آرڈیننس یا کوئی قانون نافذ کیا جاتا ہے تو وہ آئین میں دیے گئے ضمیر کے ووٹ کی ضمانت کی نفی کرتا ہے۔ اب خدا معلوم یہ نظام حکومت ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جائے۔ جناب والا! ۱۹۸۵ء میں اس وقت کے وزیراعظم جناب محمد خان جونیجو صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم اسلامی فلاحی مملکت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت بھی حیرت ہوئی تھی کہ پارلیمانی طرز حکومت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اسلامی فلاحی مملکت کی بنیادیں کیسے استوار کی جائیں گی جب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

جناب والا! صدر ذی وقار نے فرمایا ہے کہ حکومت کو جماعتی حد بندیوں سے

[Mr. Alam Ali Laleka]

بلند تر ہو کر کام کرنا چاہیئے اور اختلاف رائے کا صدق دل سے احترام کرنا چاہیئے۔ جناب والا! میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہی نظام حکومت ہمیں رکھنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ ہمارے لیئے متعین نہیں فرماتے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پارٹی سسٹم کو الیکشن تک ہی محدود کر دیا جائے اور منتخب ہونے کے بعد اسمبلی کے اندر کوئی پارٹی نہ ہو ممبران اسمبلی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اس طرح کرنے سے بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی۔ مخالفت برائے مخالفت ختم ہو جائے گی ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ کئی ایسی تحاریک کئی ایسے مسودات قانون جو ہمارے دوستوں اور بھائیوں نے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے خود پیش کیئے تھے حکومت کے بنچوں پر بیٹھنے کے بعد خود ہی ان کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک ہی حکومت میں ہوتے ہوئے ایک ہی پارٹی سے منسلک ہوتے ہوئے جب ایک ممبر کوئی تجویز پیش کرتا ہے تو حکومتی بنچوں پر بیٹھے ہوئے عمائدین کے لیئے لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ یہ مغربی جمہوریت کی لعنت ہے اس کو ہم نے بلا وجہ اپنا رکھا ہے۔ جناب والا! اگر پارٹی سسٹم ختم ہو جائے اور ایوان نان پارٹی ہو جائے تو مخالفت برائے مخالفت کی روایت ختم ہو جائے گی اور کلمہ حق خواہ وہ اپوزیشن کی کسی بھی پارٹی سے آیا ہو ہمیں اس کو خوش آمدید کہنا چاہیئے اور کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آنے والے رکن کو اپنی پارٹی کی رکنیت سے مستعفی نہیں ہونا پڑے گا۔ اس لیئے اچھی بات کہنے یا برائی کو برائی کہنے میں اسے کوئی تامل نہ ہو گا۔

جناب والا! صدر ذی وقار نے اس ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ کہ ہمارے قومی نوعیت کے کئی ایسے معاملات ہیں جو حل طلب ہیں۔ جناب والا! صوبوں کو وسائل کی تقسیم ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ بلوچستان کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں رقبے کی بنیاد پر وسائل ملنے چاہیں۔ پنجاب کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں آبادی کی بنیاد پر وسائل ملنے چاہیئں۔ جناب والا! صوبوں میں پانی کی تقسیم کا ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ایک غیر جماعتی ایوان ہی حل کر سکتا ہے قدرتی وسائل پر رائلٹی کا معاملہ ہے۔ بجلی کی ضروریات

کے لیئے ہائیڈل پراجیکٹس کی ضرورت کا تعلق ہے اسی سلسلے میں جناب والا! صدر ذی وقار نے فرمایا ہے کہ مہذب جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں قومی اہمیت کے مسائل پر مشترکہ کل جماعتی نقطۂ نظر اپنایا کرتی ہیں اور وہ اس لیئے کہ بعض مقاصد جماعتی مفادات سے کہیں عظیم تر ہوتے ہیں - جناب والا! میرا بھی منشا و یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی پارٹی سسٹم نہیں ہونا چاہیئے - بسا اوقات جناب والا! ہمارے ایوانوں میں کئی ایسے معاملات آتے ہیں جن کو غلط سمجھتے ہوئے بھی ہمیں سر ہلانا پڑتا ہے - بکرے کی مانند سر ہلانا پڑتا ہے کیونکہ ہم ایک پارٹی سے منسلک ہوتے ہیں اور جناب والا! جو کچھ آج میں کہہ رہا ہوں گو میرا ضمیر مطمئن ہے لیکن میرے دوست مجھے ڈراتے بھی ہیں کہ اس کے بڑے بُرے نتائج نکلیں گے اس کے بڑے بُرے repercussions ہوں گے۔ بہر حال میں کلمہ حق کہنے کو اپنا جزو ایمان سمجھتا ہوں -

جناب والا! پارلیمانی جمہوری نظام حکومت کی کن کن خرابیوں کا میں ذکر کروں ہم اگر ایک جانور لیتے ہیں اس کا بھی شجرہ نسل دیکھتے ہیں - جناب والا! ایک چپڑاسی ایک بھنگی ایک جمعدار ایک خاکروب اور ادنیٰ سے ادنیٰ ملازمت کے لیئے کسی آدمی کو مامور کرتے ہیں تو اس کے کردار کو دیکھتے ہیں - جناب والا ممبران اسمبلی کے انتخاب کے لیئے کوئی ضابطۂ اخلاق موجود نہیں ہے صرف ایک عمر کی شرط ہے کہ فلاں عمر کا آدمی ہو پاکستان میں رہنے والا ہو اور بس - جناب والا! میں نے پہلے بھی ایک موقع پر اسی ایوان کے اندر عرض کیا تھا اوروں کا تو مجھے پتہ نہیں کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے علم ہے اور میرے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ ایسے لوگ بھی اسمبلیوں میں منتخب ہو کر پہنچے ہیں جن کے خلاف ۲۲ مقدمات قائم ہیں اب آپ خیال فرمائیے کہ یہ کون سی اسلامی فلاحی مملکت ہے اور یہ کیا طرز حکومت ہے - جناب والا میں تجویز کروں گا کہ کسی ووٹر کے بطور ووٹر اندراج کے لیئے اس کا خواندہ ہونا لازمی قرار دے دیا جائے - اب خواندگی سے کیا مراد ہے جناب والا! میں نہیں کہتا کہ وہ انگلش جانتا ہو - میں نہیں کہتا کہ وہ اردو جانتا ہو اس طرح بہت دیر لگ گی لیکن جناب والا! قرآن ایک ایسا صحیفۂ آسمانی ہے جس کو ہر آدمی اپنے گھر

[Mr. Alam Ali Laleka]

میں پڑھ سکتا ہے ۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے اس کے دل میں کرب موجود ہو۔ جناب والا! قرآن کریم کی دو سطور ناظرہ پڑھ لینا ووٹر کے لیئے ضروری ہونا چاہیئے دیگر عوامل سے علاوہ یہ شرط عائد کر دینی چاہیئے ۔ اسی طرح جناب والا! ووٹ لینے کے لیئے کسی بھی مسلمان امیدوار پر بھی یہ لازمی قرار دیا جائے کہ وہ اسلام کے ارکان کا پابند ہو۔ جناب والا! گو آئین کے آرٹیکل ۶۲ (ای) (ڈی) میں اہلیت کی ۹ شرائط مقرر ہیں اور نااہلیت کی ۱۶ شرائط مقرر ہیں۔ جناب والا! افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیئے جو بنیادی معیار ہے اس کا کہیں تذکرہ تک نہیں ۔ جناب والا! اسلام کے پانچ ارکان ہیں ہر مسلمان اس سے واقف ہے جس میں سے تین باطنی ہیں، کلمہ ہے، روزہ ہے، زکواۃ ہے، جناب والا! ایک ظاہری ہے جو نماز ہے اور جناب والا! ایک استطاعی رکن حج ہے ۔ اب ان پانچوں ارکان میں سے کسی ایک رکن کی اگر کوئی ممبر پابندی نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی مسلمان کی سیٹ پر ووٹ لینے کا حق نہیں ہے جناب والا! یونین کونسل کے کسی گاؤں کے نمبردار سے لے کر صدر مملکت تک ان ارکان اسلام کی پابندی لازمی ہونی چاہیئے ۔ امیدوار کے لیئے یہ اولین معیار یہ ہو کہ وہ اسلام کے پانچوں ارکان کی پابندی کرے ۔ اور بالخصوص ظاہری ارکان کی اور خصوصاً جو استطاعی ارکان ہیں ۔ جناب والا! جو آدمی پیجیرو پر چڑھ سکتا ہے وہ حج بھی کر سکتا ہے جو اسلام آباد میں ۸۵/۹۰ لاکھ کی کوٹھی میں رہ سکتا ہے وہ حج بھی کر سکتا ہے اس لیئے یہ معیار مقرر ہونا چاہیئے اور کوئی ضابطہ اخلاق بھی مقرر ہونا چاہیئے جناب والا! اسلامی مملکت میں یہی معیار ملازمتوں پر بھی لاگو ہو جانا چاہیئے ۔ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ارکان اسلام کی پابندی کریں گو اس بارے میں کاوشش کی جاتی رہی ہے صلوٰۃ کمیٹیاں بنی ہیں باجماعت نماز کی تلقین کی جاتی رہی ہے اور کچھ عرصہ تو اس کی پابندی ہوتی نظر آئی لیکن اس کی عدم پابندی کے لیئے سرزنش کا کوئی طریقہ کار متعین نہ ہوا اس لیئے وہ کاوشیں صدا بصحرا ثابت ہوتی رہیں ۔ میں تجویز کروں گا منتخب ارکان با سرکاری ملازمین کے لیئے اور ہر مسلمان کے لیئے ان پانچوں ارکان کی پابندی لازمی قرار دی جائے ۔

جناب والا! اگر یہی مغربی پارلیمانی نظام حکومت ہمیں قائم رکھنا ہے تو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے حکومت کرنے کی ایک مدت مقرر کر دی جائے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تاعمر ہو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں میں عرض کرتا ہوں کہ خواہ تین ہی سال ہو لیکن اس کی ایک مدت مقرر کر دی جائے تاکہ اس بے چارے کو ہر وقت یہ اندیشہ لاحق نہ رہے کہ کہیں میری اکثریت تو کم نہیں ہو جائے گی کہیں کچھ لوگ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ۔ میرے اس عمل سے کہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک تو نہیں لے آئیں گے ۔ پھر جناب والا! عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیئے بھی، اس کی مدت میں توسیع کر دینی چاہیئے ۔ علاوہ ازیں اگر ہم سیاست کو منافقت نہیں سمجھتے تو رائے شماری ہاتھ کھڑا کرنے سے ہونی چاہیئے ۔ اس کے علاوہ عدم اعتماد کرتے وقت آئندہ امیدوار کا اعلان پہلے سے کر دینا چاہیئے تاکہ مخالفت میں قیادت قائم رہے اور قیادت میں فرق نظر آ سکے ۔ عدم اعتماد کرنے والوں کو یہ پتہ ہو کہ جس شخص کے خلاف ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو آنے والا شخص ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خصائل ہیں اور جس کے خلاف ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں، اس میں کیا برائیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں ۔

جناب والا! اس کے بعد میں، امن و امان کے سلسلے میں عرض کروں گا ۔ کہ صدر ذی وقار نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ اسلامی قوانین کا فی الفور نفاذ ہی امن و امان کی ضمانت بن سکتا ہے ۔ جناب والا! میرے خیال میں امن و امان قائم کرنا حکومت کے فرائض میں شامل ہے، یہ صرف میرا خیال ہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اولاً عدل اور ثانیاً عدل کے ذریعہ سے نظم و نسق اور امن قائم کرنا ۔ حکومت کے صرف دو ہی فرائض ہیں ۔

جناب والا! حضور نے فرمایا ہے کہ کفر کی بنیاد پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے نا انصافی کی بنیاد پر نہیں رہ سکتا ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا مقدر کہاں کہ اس دور میں بھی ہمیں ایک حضرت عمرؓ مل جائے لیکن ان کی تقلید کرنے کی کاوش کرتے رہنا چاہیئے

[Mr. Alam Ali Laleka]

امن قائم کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اور امن صرف عدل سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔

جناب والا! صدر ذی وقار نے کہا کہ حکومت انتظامیہ میں پائی جانے والی رشوت بدعنوانی، بے حسی، عدم توجہی کی لعنت کو ختم کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے گی ۔ جناب والا! منتخب نمائندگان ہوں یا افسران، یہی کسی حکومت کے کل پرزے ہوا کرتے ہیں، حکومت کے جو افسران ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں ۔ ہمارے ہی بچے ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی بزرگ ہیں ۔ وہ کسی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہیں ۔ جناب والا! اگر وہ بدکار ہیں، تو ہم لوگ بھی سارے نیکوکار نہیں ہیں، جناب والا! اگر ہم بُرے ہیں، ہم راشی ہیں، ہم خائن ہیں تو وہ بھی اچھے نہیں ہیں ۔ میں جناب والا! حیران رہتا ہوں کہ عدل و احسان کی تلقین و تنبیہ کی جاتی ہے ۔ اب اگر کسی ضلع میں، کسی ڈویژن میں، کسی صوبے میں افسر بدعمل ہو تو اس کے محاسبے کے لئے بہت ساری مشینری موجود ہے لیکن جناب والا!

چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی

نمائندگان اگر بدعمل ہوں، نمائندگان اگر رشوت لینے پر آمادہ ہو جائیں، نمائندگان اگر غلط کاری پر آمادہ ہو جائیں، تو اس کا مداوا کون کرے گا۔ پھر جناب والا! موجودہ مغربی طرز جمہوریت میں منصف و دیانت دار ہونا، ایماندار ہونا ناممکن ہے

جناب والا! میرا تایا زاد بھائی عبدالستار لالیکا، قومی اسمبلی کا ممبر ہے ماشاءاللہ میں سینیٹ کا ممبر ہوں، وہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں سیاست دان ہے ۔ میرے دل میں کلمہ حق کہنے کے لئے ایک تڑپ رہتی ہے تاکہ میں دیانت داری کے تقاضے پورے کر سکوں اب ہمارا آپس میں ہمیشہ اور مسلسل یہ جھگڑا رہتا ہے ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چور کی ضمانت ہونی چاہیئے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا گھر لوٹا گیا ہے اس کی حق رسی ہونی چاہیئے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکو کے خلاف پرچہ نہیں ہونا چاہیئے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس پر ظلم ہوا ہے، اس کی داد رسی ہونی چاہیئے ۔ خواہ وہ کسی بھی

پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قاتل کو بری ہونا چاہیئے میں یہ کہتا ہوں کہ مقتول کو خون بہا ملنا چاہیئے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پارٹی چلانا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے عاقبت سنوارنی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اسے وزیر اعلیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آقائے نامدار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اسے وزیر اعظم کے سامنے جواب دینا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اب جناب والا! اس کا مؤقف بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں بدکار، ظالم، سفاک اور ڈاکوؤں کی میجارٹی ہے۔ اکثریت ہے۔ اگر اقلیت بھی ہو تو یہ پچاس فیصدی سے کم نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اس خدائی خدمت گاری کا ڈنڈا اسے بلا وجہ پچاس فیصد ووٹوں سے محروم کر دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدمعاش اس کی عزت میں اضافہ کا باعث نہیں بن سکتے کیونکہ عزت اور ذلت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ "جسے میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں"۔ جناب والا! یہ ایک تضاد ہے جو ہم میں موجود رہتا ہے اب یہ بتایئے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میری یہ کاوش رہتی ہے کہ میں اپنی استعداد کے مطابق اگرچہ مجھ میں ہزاروں خامیاں ہیں اپنی party affiliation سے بالاتر ہو کر حق و انصاف کے مطابق اپنے فرائض کو ادا کروں اور میرے بھائی کی مجھ پر ہمیشہ تان ٹوٹتی رہتی ہے کہ تم نے میری سیاست کا بھٹہ بٹھا دیا ہے۔ تم نے جو انصاف کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ مجھے لے کر بیٹھ جائے گا۔ خدا جانے کون صحیح ہے، کون غلط ہے اس کا منصف اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے سر دست تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو چیئرمین ۵۷ سال کی عمر میں حاصل نہیں کر سکا، اس نے اس اہلیت کی بنیاد پر ۲۵ سال کی عمر میں حاصل کر لیا ہے اب میں یہ سوچنے پر قائل ہو گیا ہوں کہ میری شرافت، دیانت اور صداقت مجھے وہ مقام نہیں دلا سکی جو مجھے ملنا چاہیئے تھا۔ میں تو اپنی زندگی میں یونین کونسل کا چیئرمین بھی نہیں بن سکا۔ یہ اس کی سیاست ہے کہ اس نے مجھے بھی یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے خود کو بھی دوسری مرتبہ اسمبلی میں لے آیا ہے اور اب تو وہ

[Mr. Alam Ali Laleka]

ماشاءاللہ میرے بھتیجے کو بھی صوبائی اسمبلی میں لے کر آ گیا ہے۔ بہر کیف! یہ سب کچھ اس مغربی طرز حکومت کی وجہ سے ہے۔

جناب والا! میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ برطانوی طرز حکومت اپنی برائیوں کے باوجود ضلع لیول تک جمہوری بن گیا ہے۔ انہوں نے کمیٹی سسٹم رائج کر دیا ہے ابھی حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی سنٹرلائزر کی پالیسی اپنانے کے لئے منتخب نمائندگان سے ڈویژن کی لیول تک آراء طلب کی تھیں انہوں نے کہا کہ وہ ڈی سنٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی، فورٹ عباس جیسے دور دراز کے علاقے سے ۷۰، ۸۰ میل کا سفر طے کر کے دو دن ضائع کر کے اور زر کثیر خرچ کر کے بہاول نگر ہیڈکوارٹرز میں صرف اس لئے جائے کہ اسے ایک چپڑاسی کا تبادلہ کروانا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میں ڈی سنٹرلائز کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ضلع لیول پر کمیٹیاں بن جائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے معاملات ضلع لیول پر حل ہو جائیں۔ جناب والا! میں نے بہاولپور میں ان کے اس خیال کی تائید کی ہے چونکہ یہ میری سوچ کے عین مطابق ہے اور ان کی کامیابی کے لئے دعا کی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے اس بات پر استفسار کیا کہ ایک آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں اور کامیابی کیلئے دعا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک واضح مقصد ہے۔ کیونکہ ایک ڈی سی کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ ضلع کی کمیٹی کے ممبران کے ساتھ ڈائس سے نیچے اتر کر بیٹھے۔ جناب والا! یہ مغربی نظام حکومت ہی ہے جس نے ایک ڈپٹی کمشنر کو تمام قوتیں سنٹرلائز کر دی ہیں۔ میں جب ایک ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اس کے اختیاراتی چارٹ کو دیکھتا ہوں تو جھنجھلا جاتا ہوں کہ تمام اختیارات، تمام معاملات چاہے ضلع میں کسی چیز سے بھی متعلقہ ہوں وہ ڈپٹی کمشنر میں مرکوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ایک آدمی کو اسلحہ کے لائسنس کے اندراج کے لئے بھی ڈپٹی کمشنر کے پاس پیش ہونا پڑتا ہے اس کے پاس اسلحہ کی رسید بھی ہو اور اس کا لائسنس موجود ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اسے بھی ڈپٹی کمشنر کے پاس پیش ہونا

پڑتا ہے نقطہ اس کا دست نگر بنانے کے لئے۔

جناب والا! تحاریک استحقاق پیش ہوتی ہیں کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق کچھ بنتا ہی نہیں۔ اسی لئے میں نے آج تک تحریک استحقاق پیش بھی نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ بطور ممبر اسمبلی یا سینٹ میرا کچھ حق ہے ہی نہیں۔ میرے ضلع میں ۷ ممبران صوبائی اسمبلی، ۳ ممبران قومی اسمبلی، جن میں سے ایک میرا بھائی ہے بس الحمدُ للّٰہ سینٹ کا ممبر ہوں ہم گیارہ قوتیں مل کر ایک تھانیدار کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی بے گناہ ہے "جکما" یہ نہیں کہہ سکتے ایک پٹواری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک کا پانی زائد کر دو۔ ایک گرداور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ گداگری کے طور پہ کرتے ہیں۔ جناب والا! ڈپٹی کمشنر اور کمشنر تو بہت بڑی اور اعلیٰ قوتیں ہیں اگر یہی سسٹم اس ملک میں جناب والا! ہمیں رائج رکھنا ہے تو ایک خط فاصل ہمیں کھینچنا ہوگا ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہمارے آباؤ اجداد رجسٹری لے کر ڈپٹی کمشنر کے حضور چار چار چھ چھ دن کھڑے رہا کرتے تھے۔ صرف ٹیوب ویل لگانے کے لئے۔ جب برطانوی دورِ حکومت ہوا کرتا تھا تو وہ ہمیں سفید پوش ذیلدار وغیرہ کے خطابات سے نوازا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں اگر یہ حکومت فیصلہ کر دے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ supreme ہے sovereign ہے اگر ہمارے آباؤ اجداد کورنش بجا لاتے رہے ہیں، ہمیں بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن یہ once for all decide ہو جانا چاہیئے اگر جناب والا! منتخب نمائندگان بھی اہل ہیں تو پھر ہمیں برطانوی طرزِ حکومت کی طرح کرنا چاہیئے جس طرح انہوں نے ڈی سنٹرلائیز کیا ہے ضلعی سطح پر منتخب لوگوں کو نامزد کر کے کمیٹیاں بنائیں وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ منتخب نمائندوں کو بھی کمیٹیوں میں شامل کروں گا۔ میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ اس سے مجھے اختلاف ہے میں نہیں چاہتا کہ ایک سینٹ کا ممبر یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ضلع کی سطح پر چھوٹے چھوٹے اور ادنیٰ ادنیٰ مسائل میں پھنس کر رہ جائیں۔ منتخب نمائندگان کی نامزد کمیٹیاں ہوں اور ان تمام مسائل پر ان کی دسترس ہو اور وہ خود ان کو حل کریں۔

[Mr. Alam Ali Laleka]

جناب والا! احتساب! جناب صدر ذی وقار نے فرمایا ہے کہ احتساب جمہوریت کی روح اور انصاف کا تقاضا ہے۔ جناب والا! میری عمر [illegible] سال ہے میں نے پٹواریوں، سپاہیوں اور چپڑاسیوں کا احتساب ہوتا تو دیکھا ہے لیکن یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی حکومت نے اعلیٰ افسروں پہ ہاتھ ڈالا ہو، اس ایوانوں کے ممبران اور بدکار اور راشی افسروں پہ ہاتھ ڈالا ہو۔ میں نے یہ چیز آج تک ہوتی دیکھی نہیں۔ اور اگر ہوا بھی ہے تو ہمیشہ مصلحتیں غالب آجاتی رہی ہیں بہر کیف میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ منتخب نمائندگان کا بھی احتساب ہوتے رہنا چاہیئے۔ اس کے لیئے محتسب کے ادارہ کو مزید فعال بنانا چاہیئے۔ محتسب سے ہمیں رپورٹیں آتی ہیں کہ فلاں کو ٹیلیفون لگوا دیا۔ بس کا زائد کرایہ واپس کروا دیا۔ محتسب نے فلاں سے پگڑی واپس کرا دی۔ یہ کیا بات ہے؟۔ محتسب کو تو بڑے وسیع اختیارات ملنے چاہئیں بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ضلع لیول پہ بھی محتسب ہونا چاہیئے جناب والا! ڈویژن لیول پہ لوکل گورنمنٹ ہونے چاہئیں اور کمشنر کو ڈپٹی گورنر کا رینک ملنا چاہیئے۔ اور اس کے ماتحت تمام لوکل گورنمنٹ کا نظم و نسق چلنا چاہیئے۔

جناب والا! وقت مختصر اور قصہ طولانی، صوبائی خودمختاری کے متعلق میں عرض کروں گا کہ آئین میں پانچویں باب میں ایک حصہ آرٹیکل ۱۴۸ تا ۱۵۹ فیڈریشن اور صوبہ جات کے بارے میں ہے۔ اتنے زیادہ آرٹیکلز پہ یہ باب بنتا ہے پھر بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں صوبوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور اگر حق تلفی نہیں ہو رہی تو کیوں انہیں یہ شکایت ہوتی ہے اگر اس آئین کی پابندی کی جائے جو صوبوں کے اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ تو کسی کو کوئی شکوہ یا گلہ پیدا نہیں ہو گا۔ جناب والا! بلوچستان میں گیس کب دریافت ہوئی اور کوئٹہ کو کب ملی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیئے گا پھر اگر بلوچستان والے بھائی چیخیں تو ہم ان کو کہیں کہ بے جا چیختے ہیں۔ جناب والا! ایک واضح اور درخشندہ مثال موجود ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اس کے صدر مقام کو گیس بعد میں دی جاتی ہے ان حالات میں صوبے چیخیں

گے نہیں، چلائیں گے نہیں مگر یہ وزارتی کریں گے نہیں تو کریں گے۔ لیکن جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم غداری کرتے ہو۔ تمہاری فیڈریشن کے ساتھ حب الوطنی مشکوک ہے۔

جناب والا! صدر ذی وقار نے صفحہ ۱۳ پہ فرمایا ہے کہ آپ حضرات کو ملک کی اقتصادی ترقی اور معاشی استحکام کی طرف بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ آج کی دنیا میں ہر ملک کی قوت اس کے اقتصادی استحکام میں مضمر ہوتی ہے۔ مگر اقتصادی استحکام کی بنیادیں اس صورت میں قابل اعتبار گردانی جا سکتی ہیں جب انہیں سہارا دینے کے لیے تعلیم یافتہ ذہن اور تندرست قویٰ موجود ہوں۔ جناب والا! اس سے میری فکر مترشح ہوتی ہے

جناب والا! یہ بات مسلمہ ہے کہ آج کی دنیا میں طاقت کا دارومدار ایٹم بم پر نہیں رہا روس اور امریکہ نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ ایٹم بم نہ صرف دوسرے ملک کو زیر کرے گا بلکہ اس دنیا میں حیات کے خاتمے پر منتج ہوگا۔ اس لیئے جناب والا! ان کو ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر سوچیں بقائے باہمی کے اصول کو پیش نظر رکھ کر سوچیں۔ جناب والا! اقتصادی استحکام جس ملک کے پاس ہوگا جو ملک خوراک میں خود کفیل ہوگا وہی آج کی دنیا میں سپر پاور شمار کیا جائے گا۔ جو ملک کسی کا محتاج نہیں ہوگا جو ملک کسی کے آگے کاسۂ گدائی نہیں پھیلائے گا وہی سپر پاور سمجھا جائے گا۔ طاقت کا انحصار خود انحصاری، اور اقتصادی استحکام میں مضمر ہے۔ جناب والا! آئین میں آرٹیکل ۳۷ (ج) میں ہے کہ پیشہ ورانہ اور ٹیکنیکی اعلیٰ تعلیم کے مساوی حقوق میرٹ کی بنیاد پر دینے کی ضمانت دی گئی ہے جب کہ عمل اس کے برعکس ہے۔ جناب والا! دیکھ لیجیئے گا یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حقوق کون لوگ حاصل کرتے ہیں۔ کیا کبھی دیہات سے آنے والا بھی کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیئے وظیفے پر باہر گیا ہے۔

جناب والا! دیہات میں ایسا ایسا اچھا talent اور ایسا ایسا اچھا ذہن موجود ہے کہ آپ کے ملک میں ایم۔ ایس سی۔ فزکس میں جس بچے نے سب سے زیادہ نمبر لیئے ہیں وہ میرے گاؤں کے مزارع کا بچہ ہے اور اب وہ بچہ قائداعظم یونیورسٹی میں درس و تدریس کرتا ہے۔

[Mr. Alam Ali Laleka]

جناب talent hunt کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مراعات یافتہ طبقہ ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب کہ غیر مراعات یافتہ طبقہ خواہ کتنا ہی ذہین ہو، ان تمام سہولتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیئے ہمارے ملک کی اقتصادی ترقی، گو ہوتی ہے لیکن تشنہ رہ جاتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو صوری رہ جاتی ہے۔ ہمیں اس کے لیئے مساوی مواقع مہیا کرنے چاہئیں جو صرف میرٹ ہی کی بنیاد پر کرنے چاہئیں۔ اس کے لیئے جناب والا! میں عرض کروں گا کہ ملک کے ہر سکول سے مڈل سٹینڈرڈ سے جو پہلے تین بچے میرٹ پر آتے ہیں ان کو تلاش کر کے حکومت اپنی نگرانی میں لے لے۔ حکومت کا بچہ بنائے۔ حکومت ان کے والدین کو ان کی تعلیم کے اخراجات ان کے کپڑے ان کی معاش سے بالکل بے فکر کر دے۔ حکومت ان کو اپنے بچے بنا کر ان کی تعلیم و تربیت کرے ان کو پڑھائے ان کو لکھائے ان کو سہولتیں مہیا کرے۔ جناب والا! فیروز شاہ تغلق نے اسی عمل سے خاندان غلاماں کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اس خاندان غلاماں نے ہندوستان میں تین سو سال حکومت کی۔ انہوں نے اپنے وزراء کو talent hunt کے لیئے بھیج دیا تھا۔ اور اس کے وزراء قوم کے ذہین بچوں کو لے آئے تھے۔ اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے اس نے ایسے ایسے اعلیٰ ذہن پیدا کیئے جن سے خاندان غلاماں نے ہندوستان پر تین سو سال حکومت کی۔

جناب والا! بیروزگاری ملک کا سنگین مسئلہ ہے۔ جس کے لیئے صدر ذی وقار نے صفحہ ۱۴ پر اشارہ فرمایا ہے۔ جناب والا! بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیئے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سازگار ماحول کی ضرورت ہے۔ صنعت کاری کی ضرورت ہے۔ معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ اب اس بیروزگاری کو دور کرنے میں جو چیز سدراہ بنتی ہے وہ ہے جناب والا! غیر تکنیکی تعلیم۔ خواہ مخواہ میں بچے میٹرک کی سند لیئے ہوئے اپنے بزرگوں اپنے والدین کو ساتھ لے کر بھاگتے ہوئے ہم منتخب نمائندگان کے دروازوں پر پہنچتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملازمت دلوا دیجیئے۔ جب کہ ان بے چاروں کو ایک درخواست بھی لکھنا نہیں آتی، وہ بھی کسی سے لکھوا کر لاتے ہیں۔ اب وہ کیا کر سکیں گے۔ جناب والا!

بے معنی تعلیم کا کوئی مقصد نہیں مڈل ہی سے تعلیم کو channelize کر دیا جانا چاہیئے۔ ہمیں اچھے اپریٹر میسر نہیں ہیں۔ ہمیں اچھے کارپینٹرز میسر نہیں ہیں۔ ہمیں اچھے لوہار میسر نہیں ہیں۔ اچھے ویلڈرز میسر نہیں ہیں۔ اچھے موٹر مکینک میسر نہیں ہیں۔ اچھے ٹریکٹر آپریٹر میسر نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں تکنیکی ہیں۔ اور جتنے بیروزگار ہیں پھرتے ہیں ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ٹیلیفون ذرا دو چار دن operate کرو تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ ٹیلیفون کا کون سا حصّہ منہ کو لگانا ہے۔ تار والا حصّہ انہوں نے کان کو لگایا ہوتا ہے اور دوسرا کان والا منہ کو لگایا۔ اس کے لیئے تکنیکی تعلیم بڑی ضروری ہے جناب والا!۔

صنعتوں کے قیام کے لیئے پاور و بجلی کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ صوبوں اور فیڈریشن میں عدم اعتماد کی وجہ سے، ہم پاور جنریشن کے لیئے موجود وسائل کو بروئے کار نہیں لا سکتے۔ منگلا ڈیم کے لیئے تجاویز بنیں۔ سروے ہوئے زرکثیر خرچ ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سرحد والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈبونے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ اور سندھ والے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اجاڑنے کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں اتنی عدم اعتمادی کیوں ہے۔ جناب والا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تیل کی گرانی سے پیدا ہونے والی صورت حال میں صنعتی سیکٹر کو بڑی مراعات دی گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کو بڑی مراعات دی گئی ہیں۔ ان کی ویگنیں جو damaged or knocked down position میں آئیں ڈیوٹی فری قرار دے دی گئی ہیں۔ جو partially knocked down position میں آئیں ان کی ڈیوٹی نصف کر دی گئی ہے اور تیل کی گرانی کی بناء پر بھی بہت سی مراعات دے دی گئی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ اس سلسلے میں زراعت پیشہ لوگوں کی اشک شوئی بھی نہیں کی گئی۔ شائد سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم ٹریکٹروں میں تیل کی جگہ پانی جلاتے ہیں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ٹریکٹروں میں موبل آئل کی بجائے گھاس ڈالی جاتی ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ٹریکٹروں کے ٹیرز ہمارے مستری خود ہی بنا لیتے ہیں۔ ہماری تو اشک شوئی بھی کرنی مناسب نہیں سمجھی گئی جناب والا! حالانکہ زراعت کا انحصار، موجودہ تکنیکی دور میں جتنا تیل پر ہے اتنا شائد کسی دوسری صنعت

[Mr. Alam Ali Laleka]

کاہو۔ جناب والا! ان حالات میں :

خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا لکھیئے
ناطقہ سر بگریباں کہ اسے کیا کہیئے

جناب والا! زراعت پیشہ افراد کی، بلحاظ پیشہ یہ حالت ہے کہ کبھی بے چارہ کسان قلت باراں سے پریشان کبھی کثرت باراں سے نالاں، کبھی شدت سردی سے گریاں کبھی چلچلاتی دھوپ میں بریاں۔ جناب والا! اس پر مستزاد یہ کہ زراعت پیشہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا تو کجا سمجھا بھی نہیں جاتا۔ حل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے جناب والا! سمجھا بھی نہیں جاتا۔ جناب والا! مجھے ایک شعر یاد آتا ہے

پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے
پیالہ اگر نہیں دیتا تو نہ دے شراب تو دے

جناب ڈپٹی چیئرمین: لالیکا صاحب ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف ایڈجرنمنٹ موشن آجائے۔

جناب عالم علی لالیکا: نہیں جناب والا شراب ایک ہے فارسی کا مشروب، دوسرا عربی کا ایک ہے جو مصدر سے حاصل مصدر ہے، جو چیز پی جا سکتی ہو اس کو شراب کہتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے نشہ آور چیز کو شراب سمجھ لیا ہے۔ جناب والا! زراعت پیشہ لوگوں کی اقتصادی معاشرتی زبوں حالی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ کسی بھی اخبار میں آپ ضرورت رشتہ کے صفحے کو پڑھ لیجیے۔ زمیندار کے بچے کو رشتہ دینا تو کوئی گیا جا ہے گا۔ زمیندار کی بچیوں کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جناب والا! مانگ اور طلب ہے پی سی ایس افسران کی۔ مانگ اور طلب ہے ڈاکٹرز کی مانگ اور طلب ہے انجینئرز کی۔ مانگ اور طلب ہے کسٹم افسران کی۔ زراعت پیشہ لوگوں کی بچیاں جناب والا! اپنے گھروں کا زیور بن کر رہ جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ زبوں حالی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جناب چیئرمین، ذرا غور فرمایئے گا کہ کوئی ان کی بچیوں کا رشتہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی بھی اخبار میں ضرورت رشتہ کے کالم کو دیکھ لیجیے گا اس میں کہیں آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ ضرورت ہے ایک نیک سیرت

قبول صورت، زراعت پیشہ خاندان کی بچی کے رشتہ کی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔

جناب والا! بڑی ستم ظریفی ہے کہ زراعت میں استعمال ہونے والی چیزیں تو ہمیں ملیں بین الاقوامی نرخوں پر۔ تیل کی قیمت وہاں بڑھتی ہے۔ اثر فوراً یہاں ہو جاتا ہے۔ جیسے بجلی کا ایک سوئچ ہے وہاں بٹن دبا دو یہاں روشن ہو جائے۔ اثر کہیں جا کر خلیج میں پڑتا ہے۔ تو فوراً یہاں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ناگزیر چیز ہے۔ تیل ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جناب والا! جو ٹریکٹر ہم آج سے چند سال پہلے چار سو من گندم بیچ کر لے لیا کرتے تھے۔ آج وہ چار ہزار من گندم کے عوض بھی نہیں ملتا۔ جناب والا! کتنی پیداوار ہم اپنی بڑھائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی atomic weapons نہیں ہم اپنی پیداوار کو پانچ من سے پانچ سو من کر لیں اس میں بھی ایک حد مقرر ہے جناب والا! کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہمیں inputs تو ملیں بین الاقوامی نرخوں پر اور ہمارے outputs کی قیمت کون متعین کرے گا کیا consumer مقرر کرے گا۔ امریکہ سے گندم منگوائیں ڈیڑھ سو روپے من۔ یہاں حکومت کو دے دیں ۸۰ روپے من۔ چاول ہم سے حکومت لے لے ۱۵۰ روپے من اور رائس ایکسپورٹ کارپوریشن اسے باہر بیچ دے ۵۰۰ روپے من۔ کپاس ہم سے لے لے ۳۰۰ روپے سے ۵۰۰ روپے من اور باہر بیچ دے ایک ہزار روپے من۔ نتیجہ کیا نکلا یہی کہ بے چارے زراعت پیشہ لوگ بلبلا رہے ہیں۔ اپنی زبوں حالی پر گریہ کناں ہیں۔ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن کو چالیس کروڑ روپے کا فائدہ ہو گیا۔ کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن کو بیس کروڑ روپے کا منافع ہو گیا۔ کیا کیا انہوں نے کیا لوٹ مار انہوں نے صرف یہی کہ ہمارا گلا دبوچ کر ہم سے ہماری اجناس سستے نرخوں پر خرید کر اسے بین الاقوامی منڈی میں بین الاقوامی نرخوں پر بیچ دیا اور ہم ہیں کہ روز بروز خستہ سے خستہ حالی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

جناب والا! ہم کیسے اس disparity کو دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیل کی

[Mr. Alam Ali Laleka]

قیمتیں زیادہ ہیں ٹریکٹر پر ڈیوٹیز زیادہ ہیں اندازہ فرمائیے کہ ٹریکٹر پر کتنی ڈیوٹی ہے ایک ٹریکٹر لینے کے لئے ہمیں پورے سال کی آمدنی داؤ پر لگانی پڑتی ہے اور پھر اس کا بجٹ بٹھانے کے لئے ڈیزل میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے جسے ختم کرنے کا کوئی حکومت انتظام نہیں کر سکی آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ٹریکٹروں کے پسٹن کیوں بیٹھ جاتے ہیں ڈیزل کا اور مٹی کے تیل کا جو تفاوت ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ جناب والا! ڈیزل میں مٹی کے تیل کی ملاوٹ ہوتی ہے ارے بھئی اگر مٹی کا تیل آپ کو ایک غریب صارف کے لئے ارزاں رکھنا مقصود ہے تو ڈیزل کی قیمت کو گھٹا دیجئے اگر خلاف بد فیصلوں سے مسائل کو آپ سمجھتے ہیں تو ایسا کیجئے کہ ڈیزل کی قیمت کو اور مٹی کے تیل کی قیمت کے برابر لے آیئے تاکہ اس میں ملاوٹ نہ ہو سکے اگر وہ مٹی کے تیل کو پٹرول میں ڈال دیں گے تو ان لوگوں کا نقصان ہوگا جو گاڑیاں چلاتے ہیں۔ جناب والا! زمیندار بے چارے کی اتنی استطاعت نہیں ہے ماسوائے اس کے اپنا آباؤ اجداد کے رقبہ میں سے کچھ بیچ کر ان لوگوں کے ساتھ پورا اترنے کے لئے ایک پجیرو خرید لے، اس کی اپنی استطاعت میں یہ نہیں ہے۔

جناب والا! جو گاڑی میرے پاس تھی ایک پرانے ماڈل کی گاڑی جس میں ٹائر ذرا قیمتی لگتے ہیں نمبر پلیٹ اس پر سینٹ کی لگی ہوئی ہے جناب والا! میں لاہور جاتا ہوں تو وہاں کباڑ خانے میں پرانے ٹائر تلاش کرنے کے لئے جاتا ہوں اور یہاں راولپنڈی میں آتا ہوں تو یہاں کباڑ خانے میں جانا میرا معمول بن گیا ہے۔ وہاں سے ٹائر مجھے چار چار پانچ پانچ سو روپے میں مل جاتے ہیں اور وہ کباڑ خانے والے لوگ اکٹھے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی میں سینیٹر ہوں میں کہتا ہوں تمہیں کس چیز نے شک میں مبتلا کر دیا وہ کہتے ہیں جی ایک تو آپ کی گاڑی پرانی ہے اور پھر اس پر آپ ٹائر پرانے چڑھاتے ہیں، یہ آپ کہاں کے سینیٹر ہیں جی، میں کہتا ہوں جی سینیٹر تو میں ہوں لیکن آپ کی توقعات مجھ سے کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسان پیٹرول ۱۹۹۱ ماڈل ہونی چاہیئے دو کلاشنکوف والے آپ کے دائیں بائیں ہونے چاہئیں اور عطر پھلیل سے جلے ہوئے چاہئیں اور شور شور کرتے ہوئے آپ کو گذر جانا چاہئے، یہ ہے سینیٹر کی شان آپ کیسے سینیٹر ہیں، کہ گاڑی

بھی پرانی اور ریٹائر بھی پرانے، جناب میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہی میرا گناہ ہے اے خوبئ من تو برمن بلا شدی، یہی اگر میرا گناہ ہے تو مجھے اس سے مفاہمت کرنا قبول ہے۔ جناب والا! اب ہماری حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ

ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مُنہ پہ رونق
وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے

ہر حال میں مسکرانا ہمارا شیوہ ہے قناعت ہمارا وتیرہ ہے اللہ تعالےٰ سے براہ راست ہمارا رشتہ ہے ہم اس کی توقعات اور اس کی دین پر نازاں وفرحاں رہتے ہیں الحمد للہ جب تک چلتی رہے گی چلتے رہیں گے بہر کیف اس پر کچھ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔

جناب والا! خود انحصاری اقتصادی ترقی کا اصل معیار ہے جب صدر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے ہمیں بہت سے قدرتی وسائل میسر ہیں۔ ہمیں ہر قسم کا موسم میسر ہے ہمیں گرم پانی پر دسترس حاصل ہے۔ جس کو ایک سپر پاور ترس گئی ہے۔ یہاں کے عوام محنتی ہیں، جفاکش ہیں، محب وطن ہیں لیکن جناب والا! اس کو استعمال کرنا انہی کا کام ہے جو منصوبہ بندی کرتے ہیں جناب والا! میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ امریکہ کی ایک فرم کارگل نام سے ہمارے ملک میں بیج کو کنٹرول کرتی ہے بیج مہیا کرتی ہے میرے ایک پروفیسر جو اس وقت سعودی عرب یا دوبئی وغیرہ میں درس و تدریس سے منسلک ہیں انہوں نے مجھ سے جب یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ کارگل نام کی ایک فرم ہے تو سبھی تو انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ امریکن فرم ہے اس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ یہ پہلے تو بیج کو کچھ ایسے طریقے سے تیار کرتی ہے کہ پیداوار بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور جب سب بیج اس کے ہاتھوں میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ایسا چکر دیتی ہے کہ اچانک اس کی جو پیداوار ہے وہ گر جاتی ہے تاوقتیکہ کہ کارگل والے کسی اور ملک کا رخ نہ کر لیں اور یہ بات مجھے منطقی معلوم ہوتی ہے۔ جناب

[Mr. Alam Ali Laleka]

والا! جو ملک غذا میں خود کفیل ہو گا وہ کسی کا دست نگر نہیں ہو گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہو گا جناب والا! میں محب وطن عوام کے لئے عرض کروں گا کہ

اپنی اہلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
قطرہ ہے لیکن مثل بحر بے پایاں ہے تو

جناب والا! سادگی کے لئے صدر ذی وقار نے تلقین فرمائی ہے جو وسائل کی قلت کا تقاضا ہے جناب والا! قربانیوں کی توقع کی گئی قربانیاں تو مراعات یافتہ طبقہ دینے کو تیار نہیں ہے قربانی کی ضرورت اسی سے پوری کی جائے گی جو بے چارا بول نہیں سکتا ہو گا۔ اب جناب والا! سامان تعیش یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ کلون یہ کاسمیٹکس یہ اعلیٰ سگریٹس اس تمام سامان تعیش کی درآمد کو ختم کرنے سے سادگی اپنائی جا سکتی ہے۔ جناب والا! ہم کیا سادگی اپنائیں گے گنجی دھوئے گی کیا نچوڑے گی کیا، ہم تو قدرت ہی سے سادہ ہیں جناب والا! ہم اگر سامان تعیش کو خریدنا چاہیں بھی تو نہیں خرید سکتے کیونکہ afford نہیں کر سکتے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آج تک پجیرو prestige کا ایک سمبل تھی اور اس میں کیا چیز گھس گئی ہے کہ وہ تو معدوم ہو گئی ہے اور وزراء نسان (پیٹرول) کو Symbol of Prestige سمجھنے لگے ہیں اس میں کتنا فرق ہے قیمت میں، جناب والا! پانچ لاکھ روپے کا، کسی بھی صوبائی حکومت میں اگر بیس وزراء ہوں تو ایک کروڑ روپے کا فرق پڑتا ہے جناب۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ پجیرو میں کیوں نہیں چل سکتے ان کو جناب والا! نسان (پیٹرول) کی کیا ضرورت ہے۔ قربانیاں تو ان لوگوں کو دینی چاہیئیں جناب والا! جو اسراف بے جا کرتے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ ان کی طرف انگلی اٹھا سکے جناب والا! ملکی دفاع کے لئے میں اتنا عرض کروں گا کہ اس برصغیر میں پاکستان اور ہندوستان کے پاس ایٹمی اسلحہ کی موجودگی ہی مستقل امن کی ضمانت ہو سکتی ہے۔

War is a biological necessity and preparation for war is the next guarantee for peace

اس اصول پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیئے۔

جناب والا! جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے میں کشمیر پر حکومت کے موقف کی تائید کرتا ہوں البتہ کشمیری حریت پسندوں کی فقط اخلاقی و سیاسی امداد کافی نہیں سمجھتا جناب والا! ان کی مالی امداد بھی ہمیں کرنا ہوگی اگر کشمیر ہماری شہ رگ ہے تو اس کی مالی امداد بھی کرنی ہوگی۔ فقط lip service ہی ان کے لیئے کافی نہیں ہوگی وہ کوئی خود مختار ملک نہیں رہا ہے کہ ہمیں دخل در معقولات کا کوئی ادارہ مورد الزام ٹھہرائے گا۔

جناب والا! افغانستان کے بارے میں بھی حکومت کی پالیسی سے اتفاق کرتا ہوں روس کی قیادت کو احساس دلانے کے لیئے بیرونی ممالک میں نمائندگان کے وفود بھیجنے کی ضرورت ہے ان کی جو perestroika پالیسی ہے اس کی اہمیت ان پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تم مغربی ممالک میں اس کا پرچار کرتے ہو یہ تمہارا ہمسایہ ملک ہے اس کی جانب بھی تھوڑا ہمدردانہ رویہ اختیار کرو۔

جناب والا! اسلامی دنیا سے اشتراک قائم کرنے کے لیئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیگر عوامل کے علاوہ عربی تعلیم ہر سطح پر حوصلہ افزائی کرنی ہوگی اور یہ مفروضہ نہیں میری سوچ نہیں جناب والا! آئین کی آرٹیکل ۳۱ (۲) (الف) میں اس کی یقین دہانی کرائی گئی ہے جناب والا! میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہ عربی کی تدریس لازمی قرار دے دی جائے۔

ع بے علم نتواں خدا را شناخت

عربی ایک ایسا زیور ہے جس سے ہم قرآن حکیم سے رشد و ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھا تو جاتا ہے۔ جو نہیں پڑھتے ان کے گھروں میں موجود ضرور ہوتا ہے لیکن جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اس کے ایک فیض سے مشرف ہوتے ہیں جبکہ اس کے دو فیوض بقایا رہ جاتے ہیں۔

جناب والا! قرآن پاک کا پڑھنا باعث رحمت ہے اس کا سمجھنا اور اس پر عمل

[Mr. Alam Ali Laleka]

پیدا ہونا باعث رہنمائی ہے اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے ایک بینیفٹ تو ہم حاصل کر لیتے ہیں دوسرے فیوض کو حاصل کرنے کے لیئے عربی نہ جاننا ہمارے لیئے سد راہ بنتا ہے۔ جناب والا! آئین کے آرٹیکل ۳۲ میں لوکل گورنمنٹ کے ادارہ جات کی حوصلہ افزائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے میں اس ضمن میں پہلے عرض کر چکا ہوں ڈی سنٹرلائزیشن وقت کی اہم ضرورت ہے آرٹیکل ۱۳۷(۱) میں بھی ڈیسنٹرلائزیشن کی ضرورت امور مملکت کو چلانے کے لیئے ضروری قرار دی گئی ہے۔

جناب والا! بنیادی جمہوری نظام بڑا اچھا اور ایک شو شہر نظام تھا جس سے دیہات کی سطح پر ترقی ہوئی دو ہی ادوار میں ترقی ہوئی ایک دفعہ تو بی ڈی سسٹم کے ذریعے ترقی ہوئی اور دوسری دفعہ ۸۵ء سے ۸۸ تک ترقی ہوئی جب پانچ نکاتی پروگرام پر عمل ہوا۔ جناب والا! بی ڈی سسٹم ایک بڑا اچھا سسٹم ہے اس میں یونین کونسل کی سطح پر لوگ گاؤں کی سطح پر لوگ اچھے آدمی کو ممبر مقرر کرتے ہیں اور گاؤں کے چند لوگ مل کر چیئرمین مقرر کرتے ہیں ترقیاتی منصوبہ جات کو وہ اچھے طریقے پر تقسیم کر سکتے ہیں لیکن ایک بات عرض کرونگا خدا را اسے کسی بھی سٹیج پر انتخابی کالج نہ بننے دیجیئے کیونکہ پھر وہی ہارس ٹریڈنگ والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر وہی خرید و فروخت والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ترقیاتی کاموں پر عملدرآمد کے لیئے ان کی suggestion کے لیئے اور چھوٹے موٹے معاملات کی cancellation کے لیئے جناب والا! یونین کونسل کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے دیئے جائیں اور جس یونین کونسل میں جرائم کی رجسٹریشن کم ہو اس کی بنیاد پر اسے انعامات سے نوازا جائے جس کی ترقی کی رفتار اچھی ہو اس کی بنیاد پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

جناب والا! مجھے شریعت بل کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مسلم لیگ کو جو ہماری مینڈیٹ ملا۔ بڑی واضح سی بات ہے اس میں charisma تھا اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ

ایک مملکت کو تو مان لیتے لیکن اتنی وسیع تعداد میں جانی و مالی قربانیاں دینے کے لیئے بھی تیار ہو جاتے اور جناب والا! وہ charisma کیا تھا - پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ - صرف ایک ہی نعرہ تھا جس کی بنا پر لوگوں نے ترک مکانی کی - جناب والا! سفر پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اپنا گھر چھوڑنا تو بہت ہی مشکل ہے، ہم نے تو ہجرت نہیں کی ہے جن لوگوں نے کی ہے ان کی ہمت مردانہ اور جذبہ محبت کو سلام پیش کرتا ہوں صرف اس مقصد کے لیئے کی تھی اب جناب والا! ۱۹۹۰ء میں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کی توقعات سے کہیں زیادہ ہے اور پیپلز پارٹی کو اپنی ناکامی کی توقعات سے کہیں کم جناب والا! میرے خیال میں جہاں سابقہ حکومت کی ناجوازیاں بد اعمالیاں، غلط کاریاں اور آمرانہ حربے اس کا باعث بنے وہاں نفاذ شریعت بھی ایک ایسی بات ہے جس کے لیئے لوگوں نے والہانہ طور پر اس کو ووٹ دیے - جناب والا! میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا مینڈیٹ انہوں نے فقط نواز شریف کی شکل دیکھ کر دے دیا ہو - جناب والا! شکل کے اعتبار سے تو ان کی predecessor میں زیادہ جاذبیت تھی - اس لیئے جناب والا! میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سے عوام نے شریعت کے نفاذ کے لیئے بڑی بھرپور توقعات وابستہ کی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو جائے -

جناب والا! فقط مسلمان کہنے سے اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے فقط پیدائش کے وقت کان میں اذان دلوانے سے اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے - جناب والا! پیدائش سے مرنے تک اور قبر میں داخل کرنے تک ایک ضابطہ مقرر ہے - جناب والا! نماز کا ضابطہ ہے روزے کا ضابطہ ہے حج کا ضابطہ ہے یہ سب ضوابط ہیں - ۱۸۵۷ء میں لارڈ میکالے نے انڈین پینل کوڈ ترتیب دی تھی اور آج تک اس میں اصلاح ہوتی چلی آ رہی ہے میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکا ہوں کہ پاکستان میں قائد اعظم رح کی زندگی نے گو انہیں آٹھ ماہ سے زیادہ مہلت نہیں دی لیکن وہ کیوں نہ یہ نظام نافذ کر سکے یا کیوں نہ فرما سکے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ

[Mr. Alam Ali Laleka]

ہوگا۔ جناب والا! آج اہل تشیع حنفی حضرات کو کھا گئے ہوتے۔ دیوبندی بریلویوں کو مار گئے ہوتے کسی نہ کسی ڈگر پر ہم چل نکلے ہوتے لیکن ۴۳ سال گزرنے کے باوجود ہم گم کردہ راہ قوم ہیں ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں اور روز بروز ہم اپنے نظریے سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں اکٹھے رہنے میں کیا برائی تھی میرے شجرہ نسب کو دیکھ لیجئے آٹھویں پشت میں میرے آباؤ اجداد ہندو راجپوت تھے۔ جناب والا جیسے باجوے، چٹھے، گورائے، گل اب بھی موجود ہیں وہ ہماری کھیتی باڑی کرنے والی قومیں ہیں۔ یہ فقط ایک نظریہ ہی تھا کہ ہم علیحدہ مملکت حاصل کریں گے جس میں ہم اسلام کا نظام جاری وساری کریں گے۔ جناب والا سینیٹ نے شریعت بل پاس کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطیاں تھیں اس میں نقائص تھے۔ کون کہتا ہے کہ وہ صحیفہ آسمانی تھا شومئی قسمت کہ اسمبلی کی وجہ سے وہ اپنی طبعی موت مر گیا۔ جناب والا اب اس پر چہ میگوئیاں شروع ہو گئی ہیں جن حضرات نے اس ہاؤس میں متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا تھا اب ان کو بھی اس میں کیڑے نظر آنے لگ گئے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ شریعت بل پاس کر رہے ہیں یا death warrant پر دستخط کر رہے ہیں شریعت بل نافذ ہونے کے بعد کیا حیات ختم ہو جائے گی ساری دنیا مر جائے گی کوئی نہیں رہے گا حق کو حق اور جائز کو جائز کہنے والا کوئی نہیں رہے گا جناب والا! اس میں ترمیم و تنسیخ ہو سکتی ہے جیسے آئین میں ترامیم ہو سکتی ہیں اس میں اگر کہیں خامی رہ گئی ہو تو اس میں ترمیم و تنسیخ کا عمل ہوتا رہے گا کیونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کو بھی بڑی باریک بینی سے یوں دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں سے اس کو معطل کرنے کی کوئی گنجائش نکل آئے۔

جناب والا! قرارداد مقاصد میں واضح طور پر درج ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا جو دستور کے preamble میں درج ہے اب یہ کہہ دینا کہ چونکہ یہ آرٹیکل ۲۲۷ میں موجود ہے اس لئے شریعت بل اس سے متصادم ہے میں حیران ہوں جیسے میں

کیوں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ پھر بھی ہوں میں مسلمان کیا خصائل ہیں میری مسلمانی کے۔ جناب مجھے وہ تمام ضوابط اخلاق codify کرنے پڑیں گے۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کسی نظام کا پابند کرنا پڑے گا لیکن شومئی قسمت کہ بنیادی ارکان کی پابندی تو ہم ابھی کروا نہیں سکتے۔ خدا کرے کہ ہم کبھی شریعت نافذ کریں۔

جناب ڈپٹی چیئرمین۔ سلالیکا صاحب ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

جناب عالم علی لالیکا۔ جناب والا! میں مختصر کرتا ہوں۔ جناب والا! میں عرض کروں گا کہ ملک میں صحیح خطوط پر حکومت چلانے کے لئے ریسرچ سیل ہر سطح پر قائم ہونے چاہیئں ۔ ۔ ۔ ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین۔ ایک لائن پر تو صحیح ہے لیکن مجھے بھی تو کچھ حساب کتاب کرنا ہے نہیں تو پھر آپ تشریف لائیں آپ فیصلہ کریں۔

جناب عالم علی لالیکا۔ اس کے لئے میں عرض کروں گا کہ بندہ ہر کام میں محتاج اصلاح ہوتا ہے۔ باہمی مشورہ آغاز اصلاح ہوتا ہے جناب والا! اب صورت احوال یہ ہے اگر کوئی وزیر قابل ہے تو وہ اپنے محکمے پر غالب آجاتا ہے اور اگر کوئی میری طرح کا بے چارا قوانین سے واقف نہیں ہوتا۔ اس کی باگ ڈور، اس کی نکیل، اس کی مہار اس کی وزارت کے سیکریٹری کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جناب والا! میں یہ عرض کروں گا کہ ہر محکمے میں ہر وزارت میں ریٹائرڈ دیانتدار افسروں پر مشتمل ریسرچ سیل ہونے چاہیئں جو پالیسیاں وضع کریں نہ تو سیکریٹری کو یہ خوف ہو کہ مجھے تو وزیر کے کہنے پر چلنا ہے اور نہ وزیر کو یہ ڈر ہو کہ نامعلوم مجھے سیکریٹری کہاں پہنچا دے۔ ہر منسٹری کی ہر وزارت کی ہر محکمے کی پالیسیاں بنانے کے لئے ریسرچ سیل ہونے چاہیئں جس میں ریٹائرڈ لوگوں کی اہلیت سے استفادہ کرنا چاہیئے جناب والا! ہر سکول کالج یونیورسٹی میں تعلیمی کمیٹیاں ہونی چاہیئں جن میں بے چارے ریٹائرڈ لوگ جو گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے ان کو ان کمیٹیوں میں نامزد کر دیا جائے۔ جن کا کام یہ ہو کہ وہ

[Mr. Alam Ali Laleka]

علی الصبح سکول کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے استادوں کی حاضری دیکھیں کہ کوئی آتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بچوں کی پڑتال کریں کہ کس کا بچہ آج آیا ہے یا نہیں۔ جس کا سکول نہیں آتا ہے اس کے والدین کو شام کو گھر جا کر بتائیں۔ اسی طرح جناب والا! سکول کے لیول پر، کالج کے لیول پر کمیٹیاں مقرر ہونی چاہئیں۔ جو ریٹائرڈ حضرات پر مشتمل ہوں اور جو تعلیم کو جاری و ساری کرنے اور اس کی خامیوں کو دور کرنے کے لیئے اپنے اپنے حلقہ ہائے اختیار میں ذمہ دار ہوں۔

جناب والا! ملک کی ۷۰ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ کچھ وزارتیں ایسی ہیں جو مانگ کر لی جاتی ہیں، جو حکماً لی جاتی ہیں اور امراً لی جاتی ہیں، جبراً لی جاتی ہیں۔ کچھ وزارتیں ہیں جو منہ بند کرنے کے لیئے دی جاتی ہیں، کچھ وزارتیں ایسی ہیں جو پھینکی جاتی ہیں۔ جناب والا! نوجوانوں کے امور کی جو وزارت ہے یہ ان وزارتوں میں سے ہے جو پھینکی جاتی ہے۔ حالانکہ میرے نقطۂ نگاہ سے نوجوانوں کے امور کی وزارت بہت اہم وزارت ہے۔ اس ملک کی ۷۰ فیصد نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیئے ان کو راہ راست پر لانے کے لیئے یہ وزارت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ جناب والا! یہ ڈاکے، یہ چوریاں، یہ راہزنیاں، یہ برائیاں جو teen .agers کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو extra curricular activities میں مشغول رکھنے کے لیئے کوئی پروگرام وضع نہیں کیا جاتا۔ نوجوانوں کے امور کی بے چاری وزارت تو صرف اس لیئے کسی کو دی جاتی ہے کہ آخر کسی کو دینی تو ہے حالانکہ یہ وزارت بہت اہم ہے نوجوانوں کو مناسب خطوط پر موبلائز کرنے اور ان کو مصروف و مشغول رکھنے کے لیئے یہ وزارت بہت اہم ہے۔ اکیڈمیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بچے جو پی ایم اے اکیڈمی میں پڑھتے ہیں وہ ایسی وارداتیں کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیئے اتنے مشاغل پیدا کر دیئے ہیں کہ سوائے سونے اور جاگنے کے ان کو اور کچھ سوجھتا ہی نہیں۔ جہاں ہماری قوم کے بچے سارا دن آوارہ پھرتے ہیں۔

جناب والا! بوڑھے افراد کی نگہداشت اور کفالت کی ذمہ داری ان کے ورثا پر قانوناً فرض کر دی جائے old age houses کے تصور سے میری روح کانپتی ہے۔ اسلامی مشرقی روایات ہیں۔ خاندان بنیادی یونٹ ہے اور اس کی ضمانت آئین کے آرٹیکل ۳۵ میں دی گئی ہے کہ

"The State shall protect the marriage, the family, the mother and the child."

جناب والا! ہمارے ملک میں فیملی ایک بنیادی یونٹ ہے اور کوئی بوڑھا اس فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اس یونٹ کو جناب والا! ہمیں ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ جناب والا! اگر ہمیں آئین کے آرٹیکل ۳۷ ایف کی پابندی کرنی چاہیے جو یہ کہتا ہے۔

37(f): "The State shall enable the people of different areas, through education, training, agricultural and industrial development and other methods, to participate fully in all forms of national activities including employment in the service of Pakistan."

اگر ہم اس ضابطے کے پابند ہیں تو جناب والا! ہمیں سی ایس ایس اور پی سی ایس کے امتحانات اردو میں کرانا ہوں گے۔ ایک گاؤں میں پڑھنے والا بچہ، بہاول نگر کے کسی ہائی سکول میں پڑھتے والا بچہ، بہاولپور کے کسی کالج میں پڑھنے والا بچہ، بیکن ہاؤس اور امریکن سکول میں پڑھے ہوئے کسی بچے سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جب کہ امتحانات کا سٹینڈرڈ انگریزی ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی۔ جناب والا! کل تک تو ہم پتلون پہننے کو علامت سمجھتے تھے، انگریزی بولنے والے، خدا معلوم، سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ اعلیٰ مخلوق ہیں۔ جناب والا! کیوں امتحانات اردو میں نہیں لئے جاتے۔ جس سے کہ معاشرے کے تمام طبقوں کو مساوی مواقع میسر آ جائیں۔ دیہات میں پڑھنے والا کیا انگریزی بولے گا۔ اب جن گھرانے کے بچے ایچی سن کالج میں پڑھے ہوں گے، امریکن سکول میں پڑھے ہوں گے اعلیٰ سکولوں میں پڑھے ہوں گے ان کا مقابلہ یہ کیا کر سکے گا۔ کسی دور دراز کے علاقے کا پڑھا ہوا بچہ کیا کر سکے گا۔ ہم نے

[Mr. Alam Ali Lalcka]

بلا وجہ انگریزی کو عزت و تکریم کا سبب بنا لیا ہے۔

جناب والا! میں محض مفروضہ پر ہی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آئین کے آرٹیکل ۲۵۱ کے تحت قومی زبان اردو متعین کر دی گئی ہے۔ جناب والا! کیا یہ قومی زبان ہے قوم کی خدمت کے لیے جو افراد منتخب کیے جاتے ہیں، ان سے امتحان تو انگریزی میں لیتے ہیں اور قومی زبان اردو ہے۔ نہ معلوم وہ قومی زبان اردو کس مصرف کے لیے ہے۔ میں جناب والا! یہ نہیں سمجھ سکا۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : لالیکا صاحب گستاخی کی معافی چاہتا ہوں ابھی دو تین حضرات اور بھی ہیں جنہیں ابھی اظہار خیال فرمانا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی ایک صاحب جا نے والے تھے جنہیں میں نے روکا ہے۔

جناب عالم علی لالیکا : جناب والا! میں مختصر کرتا ہوں۔ جناب صدر نے شرح خواندگی میں ہنگامی بنیادوں پر اضافہ کے لیے اپنی تقریر میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے تعلیم کے بارے میں صدر صاحب نے کوئی ذکر نہیں فرمایا ہے۔۔۔

جناب ڈپٹی چیئرمین : آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں۔

جناب عالم علی لالیکا : جناب والا! میں اپنی تقریر کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کی بڑی عنایت ہو گی کہ اگر تھوڑا سا وقت مجھے اور دے دیں۔

جناب والا! کسی معاشرے کے لیے تعلیم بنیادی ضرورت ہے۔ آئین کے آرٹیکل ۳۷ ب میں اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ لیکن جناب ابھی تک تو ہم پرائمری تعلیم کو لازمی نہیں کر سکے چہ جائیکہ آئین میں ثانوی تعلیم کو لازمی اور مفت قرار دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پاکستان میں پہلی جماعت سے سیکنڈری سکول تک سلیبس اردو میں ہونا چاہیے۔ اس سے صوبائی ہم آہنگی پیدا ہو گی اخراجات کم ہوں گے۔ البتہ جو صوبہ جات سلیبس کے علاوہ اپنی صوبائی زبان پڑھانا چاہیں ان کو اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ جیسا کہ آئین کے آرٹیکل ۲۵۱ (۳) میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مشترکہ

سلیبس کے علاوہ اگر صوبہ جات اپنی صوبائی زبان پڑھانا چاہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں۔

جناب والا! آئین میں ہمیں ترمیم کرنا ہوگی، اور یہ گنجائش پیدا کرنا ہوگی کہ اگر کسی مرحلے پر وزیراعلیٰ، وزیراعظم یا وزیراعظم صاحبہ بے لگام ہو جائیں تو ساری اسمبلی کو ختم کرنے کی بجائے فقط اس حکومت کو فوری طور پر معزول کر دیا جائے۔ اس کی provision آئین میں نہیں ہے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد کسی ایسے ممبر اسمبلی کو دعوت دی جائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور کم از کم دو تین چار مرتبہ یہ کاوش کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تب کہیں جا کر اسمبلی کو توڑنے کا سوچنا چاہیئے۔ جناب والا! جن لوگوں نے اپنے وسائل سے الیکشن لڑے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کے اخراجات کیسے پورے کریں گے ۱۹۸۸ء کے الیکشن میں ہمارا مقابلہ ایک بڑے کہنہ مشق شخص کے ساتھ تھا جن کا نام تو میں نہیں لیتا پارٹی نہیں ہے، اپنے نام سے ہی وہ پارٹی بھی ہیں صدر بھی ہیں، سیکرٹری بھی ہیں، اب جب ہم دوبارہ الیکشن میں ۱۹۹۰ میں گئے تو میری بیوی کہنے لگی کہ ابھی تو وہ برتن جن میں ہم دودھ کو جما کر دہی بنایا کرتے تھے، جو کہ مٹی کے تھے، ٹوٹے نہیں ہیں اور الیکشن پھر آ گیا ہے۔ جناب والا! اس ملک میں الیکشن کوئی آسان نسخہ نہیں ہے کسی بھی الیکشن میں ۱۰ - ۱۵ لاکھ روپے خرچ ہونا معمولی بات ہے اور اگر جناب والا! الیکشن repetition ہوتی رہی اور روز روز اسمبلیاں معزول ہوتی رہیں تو سوچنا چاہیئے کہ ایسا کس وجہ سے ہو رہا ہے کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ غلطی کسی کی ہو اور بوجھ کسی پر آئے یہ جناب والا، کیوں؟ یہ ترمیم ہمیں کرنا ہوگی کہ جو غلطی کا مرتکب ہو اسے معزول کیا جا سکے۔ جناب والا! مخلوط حکومت کے بارے میں میرے ایک بھائی نے اظہار رائے کیا ہے جس کا انہیں پورا حق ہے لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جس

حکومت میں وزیر تھے وہ بھی ایک coalition کے نتیجہ میں ہی عمل میں آئی تھی۔

جناب والا! ماحولیاتی تحفظ نہ صرف قابلِ ذکر ہے بلکہ اس کی بر وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب والا! فضا اور ماحول کو بہتر اور صاف ستھرا رکھنے کے لیئے ہمیں کوئی سوچ بچار کرنا ہوگی قبل اس کے ہم دھوئیں کے بادلوں میں، فضائی آلودگی کی نتائج میں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو جائیں گو اسلام آباد میں رہنے والوں کو فوقیت حاصل ہے یہ تو اعلیٰ و ارفع مخلوق ہے لیکن جونہی ہم جہلم سے نیچے جاتے ہیں تو دھوئیں کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا جناب والا! ماحولیاتی تحفظ کے لیئے بھی ہمیں وقت کے مطابق سوچنا ہوگا۔

جناب والا! ہمیں توانائی کے حصول کے لیئے بھی مثبت سوچ بچار کرنی ہوگی کہ ہمیں توانائی کس طرح حاصل کرنی ہے۔ کیونکہ اب تو حالت یہ ہے کہ لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ بجلی چلی جاتی ہے اور لقمہ منہ کے بجائے ناک میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک ہم توانائی کے لیئے مثبت سوچ بچار نہیں کریں گے تو صنعتی انقلاب کا خواب بھی شرمندۂ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔

جناب والا! صحت عامہ پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے دیہات میں صحت کی سہولتیں نایاب ہیں ہسپتالوں سے ادویات فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں تو لوگ ڈسپرین کی گولیوں کو ترستے ہیں یہاں لوگ بغیر کسی عارضے کے محض چیک اپ کے لیئے بیرون ملک جاتے ہیں جناب والا! اب تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ دوا ساز کمپنیوں کو کہیں کہ جو ادویات انہوں نے حکومت کو دینی ہیں اس کے لیبل مختلف رنگ کے ہوں بہ نسبت ان ادویات کے جو مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں۔ تاکہ یہ تمیز کی جا سکے کہ یہ اسپرین سرکاری ہے اور یہ تجارتی ہم تو ان سے یہ بھی متعین نہیں کروا سکے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اول تو ضلع و تحصیل لیول پر کم ادویات بھیجی جاتی ہیں اگر کوئی بھیجی جاتی ہیں تو وہ باعث تسکین قلبی ڈاکٹروں کی نذر ہو جاتی ہیں ان کی تو کوٹھیاں، بنگلے بن جاتے ہیں اور گاڑیاں آ جاتی ہیں اور غربا مر جاتے ہیں

وہ بیماری کے اندھیروں میں دھکیلے چلے جاتے ہیں ۔ شکریہ جناب والا!

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ لالیکا صاحب ۔ ۔ ۔ جی ڈاکٹر بشارت الٰہی صاحب

ڈاکٹر بشارت الٰہی: چیئرمین صاحب وسیم سجاد صاحب سے میری بات ہوئی تھی nd I had mentioned that I wanted to raise an issue point of personal explanation تو انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ آپ یہ بات کریں ۔ اگر اجازت ہو تو I wont take more than five to seven minutes

جناب ڈپٹی چیئرمین: موضوع کیا ہے ۔

Dr. Basharat Elahi: This was, I had referred to a write-up in one of the news papers who had ventured to make personal attacks on me with reference to a Senate debate.

جناب ڈپٹی چیئرمین: ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ رولز میں ایسی گنجائش نہیں کیا کل صبح آپ تشریف لائیں گے ۔

ڈاکٹر بشارت الٰہی: میں کل نہیں آ رہا اسی لیئے وسیم سجاد صاحب سے کل بات کی تھی ۔ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ

you can raise this question on a point of personal explanation.

جناب ڈپٹی چیئرمین: معذرت کے ساتھ انور سیف اللہ خاں صاحب نے جانا تھا میں نے انہیں روک رکھا ہے تو ۔ ۔ ۔ ۔

ڈاکٹر بشارت الٰہی: میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا ۔

جناب ڈپٹی چیئرمین: چلیں ٹھیک ہے ۔ کوئی بات نہیں جی ۔ آپ کی اجازت سے انور سیف اللہ خان صاحب کیونکہ یہ بھی ذاتی وضاحت پر شاید اہم مسئلہ ہے

جی ڈاکٹر بشارت صاحب ۔

POINT OF PERSONAL EXPLANATION

Dr. Bisharat Elahi: Mr. Chairman Sir, I seek your permission to say a few words on a point of personal explanation. I would refer to the 'Muslim' dated 30th Nov. 1990, wherein a correspondent Mr. Tariq Butt in his commentary under the caption of "Senate Diary" has stated as follows: I quote:

> 'He was critical of the prevailing law and order situation and wanted the rampant corruption in the Police Department to end but what about the colossal loans (Over Rupees two billion) he himself secured during his brother-in-law's rule this was of course not corruption; Recently when a Reporter approached him to seek his comments on Ms Bhutto's statement about his hefty loans, he brushed aside the question and said, why should I respond to her remarks. And then he further adds, and he should not because perhaps this was the wise course - remain silent.

Sir, in this context, I would like to say that the Press, the correspondents of the newspapers under the garb of journalistic freedom do not have a license to say whatever they feel like about any member of the House without verifying the facts and I would at the very outset refute the quantum of the loan which have been mentioned against my name in this write-up. Sir, I would like to state here on the floor of this House that the quantum of loan is not even 125th of what has been stated over here and furthermore taking loans for industry is, I believe, a perfectly legal and a legitimate business. I do not deny that I have not taken loans, I have and as I said the quantum is not even 125th, the whole write-up is malicious and a deliberate effort to malign my name and also the name of the late President for whom at least I have a lot of respect and I, Mr. Chairman, Sir, would request you as a Chairman of this

House to at least protect the honour and dignity of the members of this House against irresponsible, malafide and malicious reporting by certain correspondents who sit in this House. Nevertheless, I would say one thing more that I still reserve my right to go to a Court of Law to get legal address on this particular issue, thank you Sir.

جناب ڈپٹی چیئرمین: شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی important issue raise کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو آج سے ڈیڑھ دو ماہ پہلے انتخاب کے نام سے ایک اخبار بلوچستان سے نکلتا ہے جس میں میرے متعلق بھی انہوں نے یہ شائع کیا تھا کہ کروڑوں روپیہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے خرد برد کیا، جب کہ اس بات کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا اور میری بھی گذارش ہو سکتی ہے جرنلسٹ حضرات سے، کہ fact of the case معلوم کر کے چھپے تک رپورٹنگ کریں میرے خلاف ہو آپ کے خلاف یا کسی بھی پاکستانی کے خلاف ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس بات کی بنیاد ہی نہیں ہوتی وہ بات اخبار میں آجاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت برا اثر جرنلزم پہ پڑتا ہے اور یہ ویسے بھی جرنلزم کے اصول کے خلاف ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ذمہ دار جرنلسٹ حضرات ہیں اور ملک و قوم کے خیر خواہ ہیں وہ حقائق کو سامنے لائیں گے۔ اور اس قسم کے tactics کو آئندہ کے لئے avoid کریں گے۔ بہت شکریہ جی جناب انور سیف اللہ خان صاحب

FURTHER DISCUSSION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS ——— (RESUMED)

جناب انور سیف اللہ خان: شکریہ جناب چیئرمین! میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے صدر صاحب کی تقریر پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ یہ صدارتی تقریر ہم سب کے لئے لمحۂ فکریہ ہے ویسے تو اس کے کئی پہلو ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن میں صرف دو تین اہم پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔

جناب چیئرمین! ہم جناب وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج سینیٹ

[Mr. Anwar Saifullah]

ہیں تشریف لائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی سینٹ میں تشریف لایا کریں گے اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہمیں بھی اتنا ہی وقت دیں گے جتنا کہ وہ نیشنل اسمبلی کو دیتے ہیں اور خصوصاً میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب وقفہ سوالات کے دوران ضرور یہاں موجود رہا کریں - کیونکہ یہ ایک روایت ہے جو کہ ہر parliamentary democracy میں ہے اگر آپ نے غور کیا ہو جناب چیئرمین تو برطانیہ، کینیڈا جیسے ملکوں میں وقفہ سوالات میں وزیر اعظم پارلیمنٹ میں ضرور موجود رہتا ہے - اور اسی طرح وزراء صاحبان بھی تیار ہو کر آتے ہیں اور ایوان میں موجود بھی ہوتے ہیں - جناب چیئرمین! ہم اس بات پر بھی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دو مہینے کی بہت کم مدت میں Council of Common Interest اور National Finance Commission کے اجلاس بلائے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو مسائل اب تک unsettled یا undecided رہے ہیں ان پر کچھ فیصلے انشاء اللہ ہو جائیں گے -

جناب چیئرمین! میں اس   سے تعلق رکھتا ہوں جس کا ذکر لالیکا صاحب نے کیا - میں بھی انگریزی سکولوں کا پڑھا ہوا ہوں اور والدین نے غلطی کی کہ آکسفورڈ بھیجا میں اپنی تقریر انگریزی میں کروں گا لیکن جب تک اس ملک کی سرکاری زبان انگریزی اور اردو ہے یہ حق ہے کہ ہم انگریزی میں بھی تقریر کر سکیں -

I do not think, Mr. Chairman, that we should be ready to it. Mr. Chairman, I shall confine my speech to just a few sentences of apportions of the President's speech. I shall say a few words on the economy, on the measures that the Government has adopted, the decisions regarding the very bold issues taken by this new Government must be praised and commended and we hope that Inshallah these would bring about the desired results and end poverty and unemployment in this country and would put us on the path towards developments. The policy of deregulation, privatisation, denationalisation and

particularly the policy of industrialization which is the new policy announced by the Government, will result in bringing about the money, the capital which unfortunately till now has been invested either in real estate or has been transferred abroad to banks in Switzerland and elsewhere.

Mr. Chairman, if the private sector is unleashed, if they are given the right kind of incentives, I can assure you that this money, this excess liquidity, this capital will be channelized into productive sectors, bringing about the desired results, eliminating poverty, improving the standard of living Mr. Chairman, once we have people satisfied, welfared, employed, happy, I can assure you we will get rid of these problems of the secretarian problems, ethnic problems, parochialism that prevails in this country. People would have other pursuits, they would be satisfied. It is only the unhappy mind, the unhappy home, a person who has no entertainment indulges in the destructive things.

Mr. Chairman, the policy of industrialization specially the policy regarding rural industrialization is fine and we appreciate the Government for that, even the Government for doing that, for announcing it, but where is the energy for that, where is the power for the industrialization , the new industry that shall be withhold, that shall be installed, as it is even today we are undergoing loadshedding. The Government must pay attention to this sector. It is unfortunate, Mr. Chairman, that even after a period of two months there is no Minister for Water & Power. I would request the Prime Minister not to wait that long for our friends from the ANP. I am sure there are others in the Province of Baluchistan or if he wants to give it to the Frontier Province in the Frontier who can handle this subject very ably because denying such a vital sector of the economy, such a vital Ministry which is not today presented or represented in the Parliament, will not board well for the Government.

I would also state here, Mr. Chairman, that the

[Mr. Anwar Saifullah]

policy of the Government in the past, the previous Government and the Government before that, have been to go for thermal power units, but look what is happening today with the problem in the Gulf, oil has become a scarce commodity. It is a commodity which may not be available to us tomorrow, it may not be available to us after the 16th of January, if there is a war. On the other hand, Mr. Chairman, we have been blessed with rivers and mountains ; and streams specially in our Province, the province of NWFP, there is a potential of 30,000 mega watts which can be taped but unfortunately, Mr. Chairman, only 3,000 of them has so far been taped which is 50% of the total energy that is generated by the WAPDA system. I would request the Government to take at a very early date a decision on the question of water distribution between the Provinces so that decisions are taken on projects such as Kalabagh or Bashra or Dasoo or Balakot or Skardu or whatever. We must face these unpopular or whatever decisions, we must take these problems head-on, we have to take the decision, we have to divide the water, we have to protect the interest of the Sindh Province, we have to protect the interest of the Frontier, but that does not mean or that should not stop us from putting up or building dams on the River Indus. There are many other spots upstream, which could be taped. I would, therefore, request that in the next 5 years and hopefully in the next 10 years we will still have an IJI Govt., a Muslim League Govt., a coalition Govt., and that we should give more attention to the development of hydro power. These will not only benefit Pakistan but will also benefit the NWFP which is a poor Province, which remains still behind some of our other more developed Provinces.

Mr. Chairman, infrastructure, as I said, is important; without infrastructure you cannot industrialize, power is an infrastructure, roads and highways are infrastructure. Unfortunately in this country the highways that we have, the roads that we have, you cannot call them highways.

they are an apology for that. It is a shame, to call them highways. They have given them names like N5 and N55 and what not and there are hundreds and thousands of innocent lives lost every year. Unfortunately the Government in the past have not given attention to this sector, that should have been given. We hope and we are happy that the present Government has realized the importance of highways, that the National Highway Board has been converted into an authority.

Mr. Chairman, it may not be a very good example but in the year 1933 Germany elected Hitler as its Chancellor, as its leader and in six years in 1939 Hitler took on the whole world, and he almost won the war. And if you look at what he did, how he achieved that; Mr. Chairman, he devoted time to the building of highways, the so called autobahns which acted as a catalyst and generated so much activity that from a shattered economy he converted the economy of Germany into a powerful, into a formidable war machine which took on the whole world.

Mr. Chairman, telecommunication is also another sector which needs to be given time. I am told that the T&T is also in the process of being converted into a corporation and would, therefore, be an autonomous body and we hope that would improve their working. We are also pleased that the Government has allowed the private sector to enter this field and hopefully things would improve and people would not have to wait in some cases twenty years to get a telephone connection. you hear of these cases almost on a daily basis that the Ombudsman has taken a decision and given some applicant a telephone connection after twenty years.

Mr. Chairman, the Frontier province is a backward province. The Frontier province has taken the major brunt of the Afghanistan war. We must give special incentives to

[Mr. Anwar Saifullah]

industry in the Frontier province if we want to industrialize it. Unfortunately incentives given at Gadoon are also being or there is a demand from other provinces that these withdrawn incentives by withdrawn Mr. Chairman, these incentives were not given to the Frontier or to the industrialists of the Frontier province. These incentives were given to the people of Gadoon because you took away from them the right to grow poppy which was their livelihood. Whether under pressure of the United States or whether these were given by the former government of Mr. Muhammad Khan Junejo and which have today resulted in providing employment to hundreds of people in that year to thousands of them and today there is a booming town in Gadoon. I would request the Government not to withdraw or not to temper with this because it has created a sense of panic amongst the industrialists or those who are trying or thinking of putting up industry there. The IJI Government Mr. Chairman, is on trial. We must meet the basic needs of the people. Democracy without development is an abstract and meaningless. If we fail posterity shall never forgive us. Today, we have a massive majority in both Houses of Parliament. If we cannot succeed today, Mr. Chairman, God help us.

On foreign policy Mr. Chairman, the people of Pakistan and specially the people of North West Frontier province and Baluchistan have given or made tremendous sacrifice for the past decade, eleven years. a war has been fought on the soil of the Frontier. on the soil of Baluchistan. We have been shelled, we have been bombed, we have suffered the Scud Missiles but unfortunately what was achieved by the Government of Mr. Junejo, by the government of Gen. Zia-ul-Haq, the advantage was given up by the Peoples Party Government in the past twenty months. They could not take advantage of the withdrawal of the Soviet troops, they could not or were not able to assist the Mujahideen in a manner where they could install their own government. It is unfortunate, however, Mr. Chairman,

today, with the withdrawal of the Soviet troops it is no longer a holy war, it is no longer an ideological war, it has now become a tribal war, it is one tribe fighting the other, one commander fighting the other Mr. Chairman, it is unfortunate if we do not intervene effectively, if we do not prevail upon the Mujahideen who have taken refuge in Pakistan, if we do not prevail upon the countries of the world, if we do not prevail upon the United Nations and if we do not install or assist in bringing about or putting together a coalition government or an interim government in Afghanistan which should hold election in the next 8 to 12 months in Afghanistan under the supervision of the Muslim nations, we could even get troops from countries like Malaysia and Indonesia which have not really been involved directly in this war. We could have these elections and then whoever comes into power Mr. Chairman, could be given the power, could be handed over the government. We should not in Pakistan be concerned whether it is a particular party or the other that takes over. We should only be concerned that Afghanistan does not split into small tribal kingdoms or small states. We must talk the vulcanisation of Afghanistan. We must ensure that Afghanistan stays as a united country. We must ensure that in very near future there are elections held and interim government set up and the three million refugees in this country majority of them is in the Frontier and Baluchistan return home with honour. Now that the two super powers have agreed on enforcing negative symmetries I don't think Mr. Chairman, that there should be any great problem in this regard.

Mr. Chairman, our problems with USA, I mean, it is unfortunate that there are these problems and that the United States has thought it best to with-hold our aid at such a critical time, good friends don't do that but on the other hand Mr. Chairman, belligerent and bellicose statements are not going to help us either. We must refrain from them, we must adopt quiet diplomacy, we must sit across the table and talk to them and to the satisfaction of both parties resolve this problem or those issues of the

[Mr. Anwar Saifullah]

bomb or the nuclear or whatever, where the Americans have taken an exception too. We must devote our time Mr. Chairman, to build our economy if we have a strong economy I can assure you no power on this earth can touch us, no power on this earth can exert pressure on us. Look at Japan, we have the example of Japan Mr. Chairman, a shattered country only forty years ago and today they are super power as far as the economy is concerned. Today, even the United States is indebted to Japan. Of course, we must Mr. Chairman, look towards Japan it is an Eastern country, and I think we can get a lot more assistance from Japan than we are getting from the European countries. In fact, even today, it is a largest donor country to Pakistan.

Mr. Chairman, I shall not take long but I will just make a reference to the matter of the question of autonomy. Unless you give total autonomy to the four provinces in Pakistan I assure you Mr. Chairman, we can not develop, we cannot grow and I don't see any reason why we should not. Why should the Federal Government be afraid to give autonomy at least that much autonomy or that quantum which is given in the 1973 Constitution which was unanimously passed by the Parliament and all parties agreed to that at that stage. Look at the examples of Canada. Canada has ten provinces and Mr. Chairman, I have spent 4 years there. Each province has the right to open trade offices. In fact Embassies abroad can do trade. They do trade with foreign countries. Here, if we write to a foreign donor country the Federal Government takes the province to task. I mean, by giving the provinces autonomy we are not going to weaken the federation. We are going to strengthen the federation. If your four provinces are strong, your federation will be strong Mr. Chairman. I don't think we should have any problems or complexes and I think with the IJI Government here at Islamabad, IJI coalition Government's in Provinces–IJI and ANP in Frontier,

IJI with other parties in Baluchistan, similarly an IJI Government in Punjab and friendly Government in Sindh, I see no reason why we should not resolve these issues i.e. the water distribution, royality on hydro power, royality on oil, royality on gas and excise on tobacco. Autonomy I mean autonomy given in 1973 Constitution that must be given to the provinces, Mr. Chairman, if we want peace, if we want development in this country.

As regards the accountability Mr. Chairman, I feel it should be a continuous process. We should not only confine ourselves to the Government or to the previous Government or to the members of the previous Government or to the Government that is no more but we should also hold accountable those in power today and those in power tomorrow. It should be a continuous process so that there should be no feelings amongst any party or any individual that accountability is aimed at him, her or that particular party.

In the end Mr. Chairman, I will say that regarding the environment in this country, I am glad that the Minister for Environment is present in the House, we must give attention to this very neglected sector - this very neglected Ministry and I agree with Mr. Laleka that these Ministries are dished out because nobody-else wants them e.g. Youth Affairs, Environment and a few others. We must not repeat the mistakes of the developed nations. We must take measures today so that tomorrow we do not have the problems that the industrialized nations are facing. We must learn from their experience. We must also do something about the cement plant that is located in Islamabad. I believe Mr. Junejo had appointed a committee but we don't know what came out of that or their recommendations.

Finally Mr. Chairman, I have been for 14 years a member of the Civil Service of Pakistan - the former CSP. The Civil Service - the bureaucracy is blamed for every ill

[Mr. Anwar Saifullah]

that this country is facing as they are the villains, they are the ones who are responsible, they are the so-called establishment, they are what you may call them because they can not hit back or they can not response to you. They are corrupt, they are bad, they are whatever, fine, we agree with that Mr. Chairman, but for God's sake let us give them constitutional protection. If a Civil Servant is given constitutional protection as he was given, I think, in 1973 Constitution but the Peoples Party Government which is for the people and by the people, they took away this through an amendment, they took away the constitutional protection to the civil servant. If you want an honest civil service you must give them constitutional protection. Today, a Minister does not like a Secretary, within minutes he is transferred. If you have put in twenty five years of service, one fine morning, you may come to your office and find a letter, telling you go home, your services are no longer required. Mr. Chairman, if we want an honest civil service in this country then we must give them constitutional protection. On the other hand punish them if they are at fault, do punish them but I would request and I think I would also raise this issue in the next parliamentary party meeting that we must bring about a constitutional amendment to this effect.

In the end Mr. Chairman, I am sorry I have to cut down my speech because I have another commitment. I am grateful to you Mr. Chairman, for giving me time and I am also grateful to my colleague - the Senator, Laleka Sahib for also cutting down his speech. Thank you very much Mr. Chairman.

Mr. Deputy Chairman: Now, I will ask for the sense of the House whether we want to continue or want to call it a day.

(Interruptions) جناب ڈپٹی چیئرمین، ختم کریں۔ ٹھیک ہے۔

So the House is adjourned to meet tomorrow at 11.00

A.M. thank you very much.

[The House adjourned to meet again at eleven of the clock in the morning on Thursday, January 3rd, 1991].